

قرآن شریف کا منتخب آیہ

Published by
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

© Islam International Publications Ltd.

ISBN 1 85372 116 6

احمدیہ مسلم مشن سٹیگ کسٹمر سروس

Printed by
RAQEEM PRESS
Sheephatch Lane, Tilford, Surrey GU10 2AQ U. K.

عالم گیر جماعت احمدیہ چیمبر ہتھ وری شہ
جوہلی ہنز شادمانی ہندس سلسلس منتر

کلمہ توحید پس اشاعتس تہ اتھ ستو لول تمھوتہ کس
جرمس منتر سنگین سزالین والین تہ دوکھ ترالن والین بیہ
مولا سینر وتہ منتر شہید پیدن والین بلا لی روح کہین
پیکرا احمدی مسلمان ہند طرفہ اکھ خلوسہ برتہ تہ مقدس
ڈاکی۔

ترتیب

۱	گہوار کتبہ
۸	۱، اللہ تعالیٰ
۱۱	۲، ملائیک
۱۶	۳، قرآن مجید
۲۵	۴، پیغمبر
۳۰	۵، اسلام مقدس پیغمبر
۳۲	۶، عبادت
۳۴	۷، روزِ
۳۹	۸، اللہ تعالیٰ سنزوتہ خیرِ کرم
۴۲	۹، حج تہ خانے کعبہ
۴۵	۱۰، تمام انسان تام مقدس پیغام و اتناون
۵۳	۱۱، آداب، اخلاق تہ الطوار
۵۵	۱۲، اقتصادِ نظامِ بکونیائی اصول
۵۹	۱۳، جہاد — خدایہ سنزوتہ مشر بہلہ پایہ کوشش
۶۳	۱۴، مؤمنین ہندی اوصاف تہ کردار
۶۷	۱۵، مردن تہ زمان ہندی ہومی حقوق
۷۰	۱۶، سوڈ بیا پتج منہا ہی
۷۴	۱۷، پشکوویہ
۷۹	۱۸، قوم درتس سہتو تعلق تھون و آل مشاہدہ
۸۳	۱۹، قرآن شریفیں اندر بیچینا و نو آرتہ کینہہ دعا -
	۲۰، قرآن شریف کینہہ سہل یاد کر فی لایق تہ تر ہونڈ سوڈ

گوڈ کتبہ

برا قرآن شریف کس پر تھ گئے آیس چھ سید سیود تہ واضح معنہ۔ تہ اگر تھد
 پایہ مطلب تہ منشا آسنگ تصور ہیکہ اکھ نو آموز ترجمہ چہ گوڈ سخی لقبہ پیٹھ
 قائم کر تھ۔ امر علاو چھ ہر کاتبہ آہیہ تھہ کہ کئی تہ مکمل مگر مختلف ڈریہ والس
 نظامک حصہ بنان بیتہ اندر مقابلتہن واریاہ نظرن ترہایہ مانہ موجود چھ۔ یکوڈریو
 کو چھ گئے تہ ایک اصل مواد اوتانی تہ کین تہ بروٹھ سینہ والین آہن تہ سورن
 سہو اگر واریاہ ڈریہ والہ واتنا ورن نظامکو پائٹھو اکھ مسلسل تعلق قائم کران۔
 اتھ کن نظر کر تھ چھ نہ کتبہ واضح سپدان:

۱۔ اکھ بیہ نہ ترجمہ کوتاہ تہ بھر پور احتیاط سان کر نہ آرت تہ معتبر آسرتن
 یہ ہیکہ قرآن شریف ہمشہ واریاہ حقیقت تھون واجتہ تہ مانہ ساوکت ابہ ہندہ
 مطلب زانی راو نہ چہ وتہ منتر گئے حدس تا بے اتھ روٹ کر تھ۔ یہ دعوا
 کرن چھ بے شک امکانہ نمبر نہ قرآن شریف کاتبہ ترجمہ کہ چھ پرن والہ
 مندر خاطر بھر پور پغام واتنا ورن خاطر کافی یس امر کس اصل متنس منتر
 موجود چھ۔

ب، بیتہ کئی پیٹھ کینہ ونہ او گئے مخصوص مضمونس متعلق قرآن شریف منتر کینہ تو موڈ
 آہیہ تہ اتھ، تہ وضاحتہ سان متعلقہ مضمون زانی راو تہ با پتھ تسلاہ دار نمایندہ
 خیال کر نہ چھ ناممکنہ کھوتہ تہ مشکل۔ مثالے اگر کینہ آہیہ امر مقدس کتابہ ہندہ
 اقتصادی نظام چھکاوتہ با پتھ تہ ار پرن، بیتہ کئی زن اتھ قرآن شریف منتر
 و پڑھنا و تھ چھ یہ کام سپد پیٹھ کینہ بیان سپد مہ تہو با پتھ کو ممانعتس
 لاتیہ بیہ او کو نہ اسلامی اقتصادی نظامک فلسفہ چھ قرآن شریف کس وسیع

۱، روزہ، ۲، اللہ تعالیٰ سنز و تہ خرچ کرن، ۳، حج تہ خانے کعبہ، ۴، تمام انسان تام مقدس پیغام و اتناؤن، ۵، اداب، اخلاق تہ اطوار، ۱۲، اقتصاد دی نظر، ۱۳، مبنی دی اصول، ۱۴، جہاد۔ خدا پر سنز و تہ متر بہلہ پایہ کوششہ، ۱۵، مؤمن ہندی اوصاف تہ کردار، ۱۶، مردن تہ زمان ہندی ہوی حقوق، ۱۷، سوڈ بیا شیخ مٹاہی، ۱۸، پیشگوئییہ، ۱۹، تہ قرآن سبتو تعلق تمھون واکل مشا ہد، ۲۰، قرآن شریفس اندر، بیچھا و تہ آرتو کینہہ دعا، ۲۱، قرآن شریف کو کینہہ سہل یاد کرنی لایق تہ ہوڈی سوڈ۔

اللہ تعالیٰ سیند فضلہ سبتو چھ احمدیہ مسلم برادری نو من زبا ہن متر قرآن شریف کو مکمل ترجمہ برونیٹھے کردی متو :

بنگالی، ڈینش، ڈچ، انگریزی، فاتی، فہین، فرانسیسی، جرمن، گرمکھی، ہاسی، ہندی، انڈونیشی، اطالوی، یگونی، یوگنڈا، پرتگالی، روسی، سپرانتو، سواحیلی، سویڈش، اردو، تہ یوروبا، ۲۰، اسی چھ یہ متادی کرنس متر شادمانی باوان نہ بیہ تہ و من زبا ہن متر چھ ترجمہ شایع کرنہ باپتہ بلکل تیار۔ اللہ تعالیٰ ہند فضلہ سبتو سپد و اسی سبھا جلد پیم ترجمہ چھ پتہ پیش کرنس لایق۔ یہ زبا فی چھ بیہ نومہ :
البالونی، آسامی، آریا، چینی، گجراتی، جاپانی، کورین، ملیام، منڈلی، مراٹھی، نارویجین، پشتو، پولش، سندھی، ہسپانوی، تایل، تیلگو، ترکی، وینامی تہ کانزی

قرآن شریف کین مختلف زبا ہن ہندین ترجمین ہندوستانی متعلق کا نہہ تہ پرتھو لایق کتہ گرتھہ شایع کارس یا دنیاہ کس گتہ تہ مکلس متر قائم کتہ مسلم مشن پرتھو یہ گرتھہ تہ تیس تھاوان ترجمین عنوان تل قرآن شریف کو متن پیش کرنہ یوان چھ تم چھہ بذات خود متن کو اکھ حصہ بنان او کو چھ پیم واضح پٹھو عدا جہہ باونہ آرتو۔

یہ کتا بہ متر پیش کرنہ آمتین تو مؤنہ کین آین ہتر تبیر ژار چھ حضرت

مرزا علی ہر احمد صاحبہ دوسو کرپہ آمپتر ایم زن عالم گپرا احمد یہ مسلم برادری
ہندو سار و پے کھوتہ با اختیار زہو سہنر حثیت تھاوان چھو۔

۱۔ اللہ (تعالا)

اللہ چھ عظیم و وجودک ناو۔ عربی زبانی مترجمینہ اللہ لفظ ہرگز بیہ گنہ
چیز یا وجود یا پتہ درتاونہ یوان۔ و ذمہین زبانی مترجمینہ سبند خاطر
لینہ پینہ اول ناو چھ ساری صفتی یا تشبیہی تہ اکثر جمع صیغس متر ورتاونہ
پینہ اول۔ انگریزی (تہ کاشتر) زبانی مترجمینہ متوازی لفظ نہ آسنہ کوی چھ اول
ناو اللہ ساری سے ترجمس متر برقرار تھا تہ آمت۔ (کاشترس متر چھ
اللہ (تعالا) ورتاونہ آمت)۔

بہ چھس اللہ (تعالا) سندن ناو ہتہ (پران)
لیس حدہ روس کرم کرن دول (تہ) ویز ویز
رحم کرن دول چھ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(بہ پتہ گنہ قسمین) تعریفن ہند مقدا ر
چھ اللہ (تعالا) ہے۔ لیس ساری عالمین ہند
رچھن دول چھ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

حدہ روس کرم کرن دول۔ ویز ویز رحم کرن دول

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بیہ چھ چیزیکہ تہ سنہ ہیکہ دہک مابکھ۔

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

چھ سیر تہ تیوہر توہر کھسان چھ۔ تہ توہر لوہر توہر
گھر سوہر سوہر توہر سوہر سوہر سوہر روزان۔ تہ اللہ
(تعالیٰ) چھ تہ سوہرے زانان سیر توہر کران چھو۔

(تہ) آسمان تہ ز سپنج بادشاہت چھیہ تہنہر
تہ ساری مسلہ چھ تہنہر پیش یوان کر تہ (فاصلہ باچھ)
سہ چھ را تہ دہ ہس مشر دا نجل کران تہ دہ ہس
را تہ مشر دا نجل کران تہ سوہر چھ وین ہنہر سارے
کھہ زانان۔

اے لوگو اللہ (تعالیٰ) ہس تہ تہنہر س
رسولس پٹھہ اُلو اہسان۔ تہ یمن (جا یادان)
ہندہر توہر (پٹی مہو قومو پتہ) مالک بناو تہ اہتو
چھو تہو اندر کر و خرچ تہ توہر اندر یک مؤمن چھ
تہ اللہ (تعالیٰ) سہنہر تہ مشر چھ خرچ کران روزان
تہنہر میلہ سہٹھا بوڈ بدلہ۔ (۵۷ — ۸۶)

آسمان تہ زمینس اندر یہ کثیرھا چھ تہ چھ
اللہ (تعالیٰ) سہنہر سپج کران (یعنی ناو چھران)
بادشاہت تہ چھیہ تہنہر تہ تعریف تہ چھ تہنہر
تہ سوہر چھ پر پتہ کرہ چیزس پٹھہ توہر درتھ تھون دول
سے چھ۔ نیو توہر پاو چھ کر تہ مگر توہر
مشر چھ کا تہہ اکھا کا فر بنان تہ کا تہہ مؤمن۔ تہ
اللہ (تعالیٰ) چھ تہنہر اعمال وچھان۔

آسمان تہ زمین چھ تہ اُکس خاص مقصدس تہنہر

كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌۙ

لَهُۥ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرْضِ وَاِلٰى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الۡاُمُوْرُ

يُوَلِّجُ الۡلَيْلَ فِى النَّهَارِ وَاِيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِى
الۡلَيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الضُّوْرِ

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاَطِيعُوْا رَسُوْلَهُۥ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمۡ
مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۙ قَالِىْزِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرًا كَثِيْرًاۙ

الحديد: ۲-۸

يَسْتَبِيْحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرْضِ ۗ لَهُ
الْمُلْكُ وَاِلٰى الْحَمْدِ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۙ

هُوَ الَّذِىۥ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍۙ وَرَبُّكُمۡ مُّؤْمِنٌۙ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌۙ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ

(اے خدایہ) اُسی چھ چائی بندگی کران تہ تریے
چھی مدد منگان۔

اسہ پکنا و سیز و تہ پدھ۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

تمن لوکن، ہنتر و تہ پدھ یمن پدھ تریے العام کور
چھتہ۔ یمن پدھ نہ (پتہ چون) غضب تارل سید
(مت چھ) تہ نہ چھ تم (پتہ) گمراہ (گامتی)۔

(۱- اتا)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝
الفاتحة : ۱-۷

آسمان تہ زمپنس اندر یہ کینترھا چھ تہ
چھ اللہ (تعالا) سہنر تسبح کران (یعنی ناو
پھران) تہ سہ چھ غلبہ تھون و دل (تہ) حکمتہ
دل۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

آسمان ہنتر تہ زمپنج بادشاہی چھہ ہنتر
سہ چھ نہ کران بیہ چھ سہ ماران تہ بیہ
چھ سہ پر تھ گنہ پیرس پدھ تھو در تھ تھوان۔
سہ چھ اول تہ تہ سہ چھ انتر تہ۔ بیہ چھ سہ
ظاہر تہ تہ باطن تہ۔ بیہ چھ سہ پر تھ گنہ چیزچ
زان تھوان۔

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ يُخْفِي وَيُؤَيِّنُ ۝
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۝ وَهُوَ
يَحْكُمُ شَيْءٌ عَلَيْنَا ۝

تمہ چھ آسمان تہ زمین سہنن زمان اندر پاؤ
کری تہ۔ پتہ چھ سہ عرشس پدھ مضبوطی سان
تایم سپدنت (یعنی قیام کر تھ چھ) سہ چھ تہ تہ
زانان یہ زمپنس اندر داغل سپدان چھ۔ بیہ تہ تہ
یہ تہ تہ اوپر نیران چھ۔ بیہ تہ تہ یہ آسمان و سان

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ
اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝ يَعْلَمُ مَا يَلْمِجُ فِي
الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمٰوٰتِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۝ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا

فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَاَلَيْتَهُ الْعَصِيْرُ

پاؤں کڑی رہتی۔ بیسہ چھو تم تو بہر صورت ڈر مشرتی تہ
تمہیں شکل چھین تو بصورتہ بناؤ مشرتی تہ تو ہر
چھو اُن پر تسی کُن واپس گرتھن۔

آسمان تہ زمیں اندر یہ کثیر تھا چھ تمیک
چھ تہ پے۔ سہ عمل تہ چھ زانان لیہ سہ تو، سہ
پوشید تھا وان چھو یا ناطہ ہر کران چھو تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ ولو چہ کہتہ تہ زانان۔ (۶۴ - ۶۵ تا ۷۲)

يَخْلَعُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْكِنُوْنَ
وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ
التغابن: ۲-۵

اِنَّ اللّٰهَ فٰلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، ذٰلِكُمْ اللّٰهُ
فَاَلَيْتُمْ تُوْفِكُوْنَ

اللہ (تعالیٰ) چھو لقیسین پھلین تہ اچنی پھلوان
وول۔ سہ چھ مہروس نش زبند تہ زبند نش
اکھ مہر د پاؤں کرن وول۔ تہند خدایہ چھ بیس
وہوئی وئی تو توہی کتہ کتہ چھو واپس نہنہ یوان۔
سہ چھ صبحی نوں کڈن وول تہ تمہ چھ راہتہ
آرامہ باپتہ بناؤ مشرتی آفتاب تہ ذون چھن صابک
ڈری ہر بناؤ رہتی۔ یہ اندازہ چھ تہند لیس غلبہ تھون
وول تہ سبھا زان وول چھ۔

فَالِقُ الْاِضْبٰجِ، وَجَعَلَ الْبَلْبَلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ
وَ الْقَمَرِ حُسْبٰنًا، ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ

بیسہ چھ سہ تہیک تہند باپتہ سارکھ پاؤں
کڑی رہتی چھ چھتہ زن توہی زمیں تہ سمندر کین شکلان
اندر وتر ہند پے لبتہ بیکو۔ اسر چھ علم تہ آگاہی
تھون والہ قوم باپتہ نشانہ و پڑھنا و تھ بیان کڑی رہتی
تہ سہ چھ بیس توہی اکی کڑو اندر پاؤں کڑی رہتی
چھو۔ پتہ چھن (تہند باپتہ) اکھ عارضی روزن جاے
تہ اکھ زبند مد تہ باپتہ روزن جاے مقرر کڑی رہتی۔ اسر
چھ سمجھن والین لوکن ہند باپتہ نشانہ و پڑھنا تہ

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا
بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قَدْ فَضَّلْنَا
الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ
فَمُسْتَقَرًّا وَّ مُسْتَوْدَعًا، قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰیٰتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ

بیان کڑی موتی

(تہ) یہ چھ مٹے تیسری اسمانہ پیٹھ (یعنی اوبہ
 منتر) آب دولت چھ - پتہ (و چھوکتھ پاٹھو) چھ
 اسہ پر پتہ کتہ جپرک پے کھسن (یعنی اگلا) پاڈ
 کورمت تہ امر رنگہ چھ اسہ کھہہ پاڈ کڑی منتر - یو
 اندر اسہ بیوٹھس پیٹھ پھلر چھ کڈان بیہ چھ کھڑ
 منتر یعنی تمہ کر گہ اندر او زبانہ لیٹھ پھل گوا ندر
 (کڈان) بیہ چھ دچھن ہندر تہ زیتون تہ وادک
 تھو باغ (بنادان) بیو اندر کینہ پانہ وانی اکھ اکس
 سوتو رلان چھ - تہ (کینہ) چھ بیون بیون - سیلہ
 (تہو اندر پڑ پتہ کتہ قسمہ کس کس) پھل نیران چھ
 تہ امیک پھل تہ تمیک پین گڑھ (سہ کھفیت
 ہتھ) و چھن اٹھ منتر چھ ایمان اتن والین ہند
 با پتھ یقین (سہٹھا) نشا تہ -

تہ تہو چھ اللہ (تعالا) ہس سوتو چھو اندر
 شیریک مقرر کڑی موتی حالانکہ تھو (خداین)
 چھ یک پاڈ کڑی موتی تہ تہو چھ تسند فطر
 اپڑ پاٹھو زان نے کرنے نیچو تہ کور بنا و منتر
 سہ چھ پاک تہ یہ کثیر ہا تم بیان کران چھ تمہ
 نشہ چھ (بلند تہ) بالا - (۴-۹۶ تا ۱۰۱)

اللہ (تعالا) چھ سہ ذات) ہندہ و راہی
 بندگی کرنک (بیر) کاہتہ حقدار چھنہ - سامل
 زندگی وول (پنس ذالت منتر) قائم (تہ سارہ)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
 بِهِ نَبَاتَ حُلِيِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
 طَلْحِمْ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجِثَّتْ مِنْ أَعْتَابٍ
 وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانِ مِثْمَثًا وَغَيْرَ مِثْمَثًا يَوْمَ
 أَنْظَرُوا إِلَى ثَمْرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَعَلَّةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
 وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 سُبْحٰنَكَ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُصِفُونَ ○

الانعام: ۹۶-۱۰۱

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

خَلَقَهُمْ، وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ

البقرة: ۲۵۶

قائم تھوں وول۔ نہ چھیتے تے تھوں یوں تہ نہ
چھہ نیندر (تس کھان) یہ کیتڑھا آسمان منڑ
چھہ تہ یہ کیتڑھا زمین منڑ چھہ تہ سورے چھہ تہ
سندے۔ کس چھہ یس تہندہ اجازتہ بقار
تہندس حنورس منڑ سفارش کر۔ یہ کیتڑھا
تہن برو نہ کہہ چھہ تہ یہ کیتڑھا تہن پتہ
کنہ چھہ تہ (سورے کیتڑہ) چھہ سہ زانان۔ تہ
تہنڑ مرعی بقار ہیکن نہ تم تہندہ علو مک
کاہنہ حقہ تہ لیٹہ۔ تسندہ علم چھہ آسمان پلٹہ
(تہ) زمین پلٹہ (تہ) حاوی تہ یکن ہتر حفاظت
چھہ تے تھکراوان تہ سہ چھہ تھدہ شانہ وول (تہ)
عظمتہ وول)۔ (۲-۲۵۶)

اللہ (تعالیٰ) ہے چھہ سب سوا نہ کاہنہ
معبود چھہ۔ سہ چھہ اوجھہ تہ تہ وچھہ سبتس
تہ زانان۔ سہ چھہ حد رؤس کرم کرن وول تہ وزیر
وزیر رحم کرن وول (خداے)۔

(حق چھہ یہ نہ) اللہ (تعالیٰ) چھہ سہ ذاتہ
سب سوا نہ کاہنہ معبود چھہ۔ سہ چھہ بادشاہ
سہ چھہ پاک (پانہ تہ تہ) یبین تہ چھہ پاک
کران۔ پرچہ گنہ عابہ نشہ چھہ سلامتہ (پانہ)
تہ تہ دویمین تہ چھہ سلامتہ تھولن) سارہ
چھہ امن دینہ وول تہ سارہ تہ ہند نگر آئی
کرن وول۔ غلبہ وول چھہ تہ سارہ تہ چھہ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عِلْمُ الْغَيْبِ
دَ الشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَلَمْ يَكُنْ
الْقُدُّوسَ السَّلَامَ الْمُؤْمِنَ الْمُهَيَّمُونَ الْعَزِيزَ

میرتین دین چھ توران بھد سنا تہ دول چھ۔ یمن
چیزن یم لاکھ تہندک شیر پک قرار دول چھ
تمو نشہ چھ اللہ (تعالا) پاک۔

(حق چھ یہ ز) اللہ (تعالا) چھ ہر چیزک
پاڈ کرن دول تہ پر ہتھ گنہ چیزک ایجاد کرن
دول تہ پر ہتھ چیزس چھ تمہ کر مناسب حال
صورتہ دتہ دول۔ تس چھ واریاہ حسین صفت
آسمان تہ ز سپنہ مشریر کیتڑھا چھ (تہ چھ)
تس تہ سچ کران۔ بیہ چھ سہ غالب تہ حکمتہ
دول - (۵۹) — ۲۳ تا ۲۵

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

الحشر: ۲۳-۲۵

۲۔ ملائیک

"ملک" لفظ تک لغوی معنی چھ "قاصد" یا "کارندہ"۔ امیر تلمبہ چھ ملائیک پاؤ کرنک مقصد واضح کرنا۔ تم چھ خدایہ مند پیغام انان تہ تہن مرضی دنیا ہس منتر جاری کران۔ او کوز چھ ملائیک اکھ جھہ تہہ بوند بستک یس خداین دو تونی طبعی تہ روحانی دنیا ہن منتر بین ابراہیم علمہ منتر انہنہ با پتھ ترور مت چھ۔

روحانی دنیا ہس اندر چھ ملائیک ہند ذاتی اثر سید سید تہ کسہ دخل دہنہ والہ وسپہ وراہی کام کران۔ لہذا ملائیک پیٹھ پڑھ نہ آسنگ معنی گوو تم وسپہ تراوتھ ترہنتو یو ہند ڈر دیر خدائی نور انسانس کن یوان چھ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةَ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اٰجْنَحَہٗ مَشٰی وَكُنْتَ وَرُبِعًا ۚ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

فاطر: ۲

اللہ (تعالا) سببہ با پتھ چھ ساری تعریف یس آسمان تہ زمینک (اکر نو بظاہر با پتھ) پاؤ کرن دول چھ (تہ) ملائیک چھ تھنس حالتس منتر رسول بناوتھ سوزن دول ییلرن کنہ ورنہن نرن پکھ آسن، کنہ ساتہ ترہیہ ترہیہ تہ کنہ وقتہ ترور ترور۔ سہ (خدایہ) چھ (زمینس ملائیک ہندین پرن ہستہ) پاؤ پیشہ منتر نوناہ تہ بیترہان چھ ہر ہر بخشان اللہ (تعالا) چھ پرتھ کنہ چہرس پیٹھ قہ درتھ تھون دول۔ (۲۵-۲)

تو، ہر وتو (تمن) یس شخص امیر کوز جبریل

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلَ فَإِنَّہٗ نَزَّلَهُ عَلٰی

قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهَدَىٰ وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

سُنْدُوشْمَنِ اَسْمِہ کہ تَحْمُرُ اُفُو اللہ (تعالا) سُنْدُ
فرمانہ مطابق یہ (کتاب) تہندس دِس پٹھ لوسہ
تھہ (کلاس) یہ زن امیر برونٹھہ مؤجود چھہ
پُزراون واچھڑ چھہ تہ مؤمنن ہند خا طر
چھہ ہدایت تہ نوحہ شجرہ ۔

(تہ نتس گرتھہ یاد روزن تر) یس شخص

(تہ) اللہ (تعالا) سُنْد تہ تہندس ملائکین تہ
رسولن ہند تہ حیرا اہل تہ میکا اہل سُنْد
دُشْمَنِ اَسْمِہ (دیتھن) کافرین ہند چھہ اللہ (تعالا)
تہ پُزرا یا کھو دُشْمَنِ ۔ (۲ - ۹۸، ۹۹)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ ۝

البقرة : ۹۸-۹۹

تہند کھسہ دِس تہ لوسہ دِس کن تہ چھہ پُزرا
چھہ کاہنہ ہر تپکی ۔ مگر کابل نیک چھہ سہ شخص
یہ اللہ (تعالا) ہس، آخر تہ کس دہ ہس، ملائکین،
(الاہی) کتاب تہ سار تہ تجرین پٹھ ایمان اؤن
تہ اُموسُنْد (یعنی اللہ تعالا سُنْد) مجتہ رکو
دین (دین، مال اُستناؤن، تہین، مسکین،
وتہ پیکو ہس، سوالین تہ بیہ غلامن ہند) آزاد
گرتھہ ہنرا باپتھ تہ نماز تھون قایم تہ زکات
کورن ادا ۔ تہ پُزرا عہد سبیلہ تہ کاہنہ عہد کرن
پور کرن واڈ تہ (خاصکرتھہ) تنگی تہ دا دِس
مشر یہ جنگیہ کر وقتہ ترالن بالنس کام ہتہ واڈ
چھہ (پور نیک) یکے لاکھ چھہ ہم (پنہ تو پور)

كَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

البقرة : ۱۷۸

پہری یاری دہانے تہ یکے لوکھ چھ سکاہل تقویٰ
والی - (۱۷۸-۲)

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

البقرة : ۲۸۶

یہ کینترہاتہ اُمس رسولس پیٹھ اُمی
سندس روہیہ سید طرفہ نازل کرنہ اُمت
چھ تھ پیٹھ چھ سہ ایمان تھوان (پانہ تہ)
تہ (باتہ) مومن تہ (چھ ایمان تھوان) - ایم
ساری چھ اللہ (تعالا) ہس ، تمہ سندہن
ملا پکن تہ تمہ سترن کتابن تہ تمہ سندہن
رسولن پیٹھ ایمان تھوان (۲۸۶-۲)

اللَّهُ يَضْطَرِّي مِنَ الْمَلَائِكَةِ ذُؤَلَاءًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

الحج : ۱۶۰

اللہ (تعالا) چھ ملائیکو اندر پینو رسول
زاران - تہ (پیتھ پاٹھو) السانو اندر (تہ)
اللہ (تعالا) چھ سہھا دُعا) یوزن وول -
(تہ حالاتن) سہھا وچھن وول -
(۲۶۶-۷۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا لَللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

النساء : ۱۳۷

اے ایماندارو! اللہ (تعالا) ہس تہ تمہ
سندہن رسولن (پیٹھ) تہ تمہ ستر کتاب
پیٹھ یوہ سہ تمہ پینس رسولس پیٹھ نازل کر
مہتر چھیہ بیسہ تھ کتاب پیٹھ یوہ سہ تمہ (امیر)
برونٹھ نازل کر مہتر چھیہ ، اُنو ایمان تہ یس
شخص اللہ (تعالا) ہس تہ تمہ سندہن ملائیکن
تہ تمہ سترن کتابن تہ تمہ سندہن رسولن تہ
پوتس یسہ وارس دہ ہس الکاکر تہ (زالوزر)
سہ چھ حد درجہ چہ گمراہی مہتر ہنہ اُمت -
(۱۳۷-۴)

۳۔ قرآن مجید

القرآن (قرآن) چھ خداین تھے کتاب برناو تھوومت یوسہ تھو اسلام
 کس مقدس پیغمبرس پیٹھ نازل کڑ۔ بیتھ منز آدمز ڈاثر ہند باپتھ آخری
 قولون درج چھ۔ " قرآن " لفظک معنہ چھ اکھ کتاب یوسہ پرتہ
 پیسہ۔ قرآن چھ دنیا ہس منز بلا شک سار وپے کھوتہ جاو پرتہ پرتہ واجو کتاب
 یہ لفظ چھ بیاکھ معنہ تھاوان یعنی اکھ کتاب یا پیغام سار ہنے لوکن تمام
 واتناون تہ تمن حوالہ کرن۔ قرآن شریف چھ کئی نازل سپز متھ کتاب
 پیمیک اطہار یا پیغام کلی طور غار محدود چھ۔ بیتہ زن تمام دوکیمہ
 کتابہ مخصوص زمانوتہ مخصوص قومو خاطر چھیتہ مقصد تھاوان۔ تہ چھ
 قرآن تمام زمانوتہ قومو باپتھ مخصوص۔

آلَمَ (الف، لام، میم)

یہ چھیتہ اکھ مکمل کتاب۔ اتھ (کتھ)
 اندر چھیتہ کاشہ شک۔ یہ چھ منقی بن صید
 ورتہ واجو۔ (۲-۳۱)

آلَمَ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى
 لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

البقرة: ۲-۳

یہ قرآن چھ بے شک سٹھا عظمتہ وول۔

(تہ) یہ چھ اُکس پوشید کتاب بر اندر موجود
 (۵۶-۶۸، ۶۹)

لَئِنَّ لَقُرْآنًا كَرِيْمًا

فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۝

الواقعة: ۷۸-۷۹

فِيهَا كُتِبَ قِيمَتُهُ

البينة: ٤١

یقہ اندر قارئین روزن والی احکامات آسن -
(۹۸-۴)

اللہ (تعالیٰ) چھ سہ بیسویں پر تہ کھو تو تہ زکوة
یعنی سو کتاب نازل چھ کر میسر۔ یوسہ مشتاہر
دینی نیکی معنون باییل تہ بین پتر ہن کتابن
سوتو تہ رلان چھ تہ کیئہ آئیہ چھ لوگو معنون
تہ بیان کران) تہ چھ تہ ایکی معنون چھ نہایت
اعلیٰ۔ ہم نؤکھ پنسن رہس کھو تران چھ تہ ہن
جسمن ہندو روم چھ امر کر پر تہ سوتو کھڑا
گرتھان۔ اچھ تہ ہن تہ زم تہ دل نرم سپد تہ
اللہ (تعالیٰ) سندس ذکر کرنس کن نماں۔ یہ
(قرآن) چھ اللہ (تعالیٰ) سندھ ہدایت۔ (یعنی
قرآن۔ یمہ ہدایتک ما یک چھ سہ چھ اللہ تعالیٰ
سندھ ہدایت)۔ یمہ ڈری یہ لیس۔ بیترھان چھ
ہدایت چھس دوان تہ لیس اللہ (تعالیٰ) گمراہ
قرار دیہ تس ہیکہ تہ کائہ ہدایت دتھ۔
(۳۹-۲۴)

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مِمَّا تَشْتَأْنِي بِهِ
تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ
تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

الزمر: ٢٤

حَمَّةٌ

وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

لِنَجْعَلَنَّهَا نُزُلًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۱۱ حمید تہ مجید (خدا یہ سیند طرفہ چھ یہ سو
نازل سپد مت)
اسی چھ یمہ کتاب ہن ہند قسم کران (یعنی
اتھ چھ شہادت تہ کنہ پیش کران) یوسہ پتر
معنون دتھہنا دتھہ بیان کرن واجز چھیہ۔
اسہ چھ اتھ کتابہ قرآن بنوومت (تہ قرآن)

وَرَأَيْتَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْمًا لَعِينًا حَكِيمُهُ
الزخرت : ۲-۵

تہ تمیغہ) ایس عربی چھ میٹھ زن توہی سچھ
تیکو -
تہ سہ (یعنی قرآن) چھ اُمّ الکتابہ مشن
تہ اسہ ریش چھ تھہر شتاہ دول (تہ) بحجہ
حکمتہر تھون دول - (۲۳-۲۵)

لِتَاعَرَّضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا ۝

اسہ اوس کابل امانت (یعنی شریعت)
آسمان تہ زمپس تہ بہارن بروٹھ کسہ
پیش کورمت مگر سہ تھنہ ریشہ کور تھو انکار تہ
اکھ کھوڑی مگر انسان تل یہ سہ چھ بے تنگ
ظالم (پانس کیت) تہ نتیجہ ریشہ لا پروا -
(سانہر یمیرہ شریعتک بور شیرنگ) نتیجہ
سیدہ نہر متافق مردن تہ متافق زنان تہ
مشرک مردن تہ مشرک زنان دیت اللہ (تعالی)
ہن عذاب تہ مؤمن مردن تہ مؤمن زنان

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ۝

الاحزاب : ۷۳-۷۴

کورن فضل تہ اللہ (تعالی) چھ ہی بوڈ بخشش
کرن وول تہ ویز ویز رحم کرن وول -
(۳۳-۳۴، ۷۴)

قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْكَلْبُاسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ آلِ
يَاسْرَةَ يَوْمَئِذٍ لِّقَدْ آتَىٰ الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِحِشْمَةٍ
وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

توہی وولو (رتمن نہ) اگر ساری انسان
(تہ) تہ جن (تہ) امر قرآنک جوہر انہ
باپتھہ کیو تہ سپدن تہ (توتہ) ہیکن نہ رتم
امیک جوہر اُتھہ - یوڈ وے تم اکھ اُکھند
مددگار (تہ کو تہ) بن -

تہ اسیر چھ اکتھ قرآنس منتر یقین پر چھ
 کانہہ (اثری) کتھ بیون بیون طریقہ ستر
 بیان کر مہتر - پتہ (تہ) چھ کورمت اکثر
 لوگو (اکتھ متعلق) کفر (یعنی کتھ اختیار کرتے) کرلا پر چھ
 کتھ لستہ انکار (۱۷ - ۸۹ - ۹۰)

وَلَقَدْ صَدَقْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
 كُلِّ مَثَلٍ ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
 بنی اسرائیل : ۸۹-۹۰

پس کیا سہ شخص) یس پنشن رو بہ سہ
 طریقہ اکتھ نترہ دسپلر پلچہ (تاکیم) چھ -

یہ سہ پتہ تہ تہ طرفہ اکھ گواہ سہ (یس سند فرما سہ دارا سہ) تہ امر
 بروٹھ تہ چھ موشی ستر کتاب (اثر، یوسہ امیک تاپید کر دنی
 اس تہ) یوسہ (تہند کلام بروٹھ) لوکن بندہ طریقہ تہ اولہ تہ حمت
 اس - (ہیکیا اکھ اپتہ دعوا دار، موشی اس تہ)
 تم (یعنی موشی ستر پڑی پارو کار) ان (اکر دہ
 ضرور) اہان - تہ یوسہ مخالف جٹرو اندر یس کانرٹھا
 انکار کران روز، جہنم چھ دعد مطابق سند ٹھکانہ
 اوکو پتہ تہ تو بہر اکتھ متعلق کتہ (تہ سہ کس) ششکس
 منتر بیون - تہ چھ یقین حق (تہ) تہندس رو بہ

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا
 مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ لَهُ سَائِرُ مَا دَخَمَهُ ،
 أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
 الْأَحْزَابِ قَالُوا لَهُمْ مَوْعِدُهُمْ ، فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ
 مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يُؤْمِنُونَ ○

ہود: ۱۸

سندِ طرفہ (چھ) مگر اکثر لوگھ چھینو ایمان نمان
(۱۱-۱۸)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالتَّوْحِيدَ رَأْمَ الْقُرَى
وَمَنْ حَوْلَهَا.

الانعام: ۹۳

تہ یہ (قرآن) چھ اکھ (عظمتہ واجزی) کتاب
یوسہ اسہ نازل کر مٹھ چھینے (یہ) چھینے برکتر
ناگ۔ تہ کلامہ یہ اسہ برؤنٹھ اوس، چھینے یہ
پوڑ کر ن واجزی (بہہ کر اسہ یہ اڑکزی نازل) مٹھ
زن توہی ام القرای (یعنی مکہ کہن لوکن) تہ اسہ
کہن اندر کچھو روزن والین خوف دیوے۔ (۶-۹۳)

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

الباقية: ۴

از چھ مینہ تمہند فایدہ باپتھ تمہند دین مکمل
کورمت تہ تہہ ہر پلٹھ چھم پنن احسان پوڑ کورمت
تہ تمہند باپت کورم اسلام دینہ کس سورس
مٹھ پند - (۵-۲)

تہ یہ (قرآن) چھ ترشہ کتاب، یوسہ
اسہ نازل چھینے کر مٹھ (تہ) برکتہ واجزی چھینے
(یہ)۔ اڑکزی کر و اریچ پیروی تہ تقویٰ کر و
اختیاریتہ زن تہہ ہر پلٹھ رحم کر تہ پیسہ۔
(۶-۱۵۶)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَأَتَّقُوا عَالَمَكُمْ تُرْحَمُونَ ○

الانعام: ۱۵۶

بہ چھ قرآنہ مٹھ واد واد سہ (تسپم)
اسہ نازل کران یوسہ (تہ) مؤمن ہند باپتھ
شفا تہ رحمت (یعنی تمیک موجب) چھ تہ ظلمن
چھ محض خسارس مٹھ ہر بر کران (۱۴-۸۳)

وَأَنْزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا ○

بنی اسرائیل: ۸۳

۴ - پیغمبر

قرآن مجید و وثوقہ سان و مان زہ اللہ تعالیٰ ہن مجھ پر ہتھ کتر قومس کن ہدایت سوزمت - ہتھ کتر مجھ پر ہتھ کانسہ پیغمبر سنز صداقت تہ پزر مانان - توارنہس منز چھ پیغمبر خاص قومس کن خاص وقتن پہتھ سوزنہ آہتہ - اللہ تعالیٰ سنز و تھ لاونہ موکھ یہ مقدس پیغمبر اوس اُخری شریعتہ وول نبی ادر کونچھ اسلامگ پیغام پتر ہن سارنہ شریعتن و حاظہ کران تہ منسوخ کران - پیغمبری چھ جاری مگر صرف اسلامس اندر - پیغمبر چھ مقدس پیغمبر سندے کس، ہتھ تہ ہر سپدان تہ نوو کاہہ قولون چھنہ انان - مقدس قرآن چھنہ نبوت تک صرف مثبت پہلو سے اوت بیان کوزمت - یہ چھ سارنہ پیغمبرن خلاف سکنہ آمرتن مخالفن ہند کردار تہ و شرعناوان - فرعون چھ تمن طاقتن ہنزیو پر ہتھ کانسہ پیغمبرس مخالفت کر، اکھ قرآنی علامتہ -

اللہ (تعالا) چھ تزاران پتر رسول ملا یکو اندر
تہ (ہتھ پاٹھی) التالیو اندر (نہ) اللہ (تعالا) چھ
سپٹھا (دعا) لوزن وول تہ سپٹھا (حالات)
وچھن وول - (۲۲ - ۲۶)

اللَّهُ يَضْطِفِي مِنَ الْعَالَمِيَّةِ دُسَلًا دَرَمَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيحٌ بَصِيرٌ

الحج : ۷۱

بہ چھ اسہ پر ہتھ کتر قومس منز کاہہ تہ کاہہ
پاغمبر (یہ محکم ہتھ سوزمت) نہ (اسے لوکو)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى

تو ہرگز اللہ (تعالیٰ) ستر عبادت تیرے پر ہتھ
 لگانے سے حد پیغمبر گزرتی ہے اور اس نش رُو زو لوب
 اتھ پیٹھ سپردِ بتمن اندر کینہ تھو (برق ثنابت)
 زرتیمن دیت اللہ (تعالیٰ) من ہدایت تیرے کینہ تھو
 زرتیمن سپردِ ہلاکتس لایق۔ لہذا سارے
 دنیا ہس پھیرو تیرے دیکھو (زرتیمن ہندین)
 اپنا دن والہن ہند انجام کینہ اوس سپردت۔
 (۱۶-۳۷)

اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ
 قَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

النحل : ۳۷

تیرے (اسے انسان) اس وقت کرایا (بیلے چاندی
 روہ بن ملائکین وون زرتیمن ہتھس زرتیمن اندر اکھ
 خلیفہ بناون وول، تیرے وون (اتھ پیٹھ) زرتیمن
 اتھ اندر کرا کھانہ پاد (تھو شخص تیرے) ہم اتھ
 اندر فساد کرن تیرے رتھ والہن تیرے اوس پھ (تیرے ہم)
 چاندی تعریف کرنس سوتو (سوتو) چاندی پاکیزگی (تیرے)
 بیان کران چھ تیرے تیرے متر چھ سارے بھرن
 ہند لیتے نیک اقرار کران (اتھ پیٹھ) فرمود کھ
 (اللہ تعالیٰ) ہتھس تیرے کینہ زانان ہر تیرے
 تو ہر زانان چھو۔ (۲-۳۱)

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي
 الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ
 يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَ نَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُغَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْ
 اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

البقرة : ۳۱

یقین کر اسے وحی نازل تو ہر پیٹھ (تیرے ہتھ
 گزرتی) تھ گزرتی اسے نوحس تیرے تھس پتیرے ہتھ والہن
 سارے تیرے تیرے پیٹھ (وحی نازل) اسے گزرتی
 ہر اسے گزرتی وحی اسے نازل، ابراہیم تیرے

اِنَّا اَوْحَيْنَا لَكَ كَمَا اَوْحَيْنَا لِيْ نُوْحٍ
 وَ التِّيْۤهِنَ مِنْۢ بَعْدِهِ ۗ وَ اَوْحَيْنَا لِيْ اِبْرٰهِيْمَ
 وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ

وَعِيسَىٰ وَآلِيهَا دَاوُدَ وَإِسْحَاقَ وَمَنْ فِي سُلُوفٍ مِّنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّكَ بِرُؤُوسِ الْعُرْسِ الْمَعْرُوفَةِ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اسما عیسیٰ تہ اسحاق تہ یعقوب تہ (نہند بن)
اولاد تہ عیسیٰ ہس تہ یونس تہ یونس تہ
ماروس تہ سپاس پیچہ (تہ) تہ اسہ اس
داؤدس (تہ) الہ کتاب ڈر ہتر۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ
وَرُسُلًا لَّمْ نَقْضُصُهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ مُؤْتِي تَكْوِيلًا ۝

النساء : ۱۶۴-۱۶۵

تہ کوئی رسول چھو تم زمین ہنز اسہ تو ہ (بہر ہتر)
خبر کر ہتر چھو۔ تہ (کوتہ) رسول چھو تہ (بہر ہتر)
تہ اسہ تو ہر ہتر (کاتبہ) ذکر کو تہ اللہ تعالیٰ
ہن اسہ مؤسیٰ ہس سہ سہ سہ جان پانہ
کلام کو تہ۔ (۲-۱۴۴، ۱۴۵)

وَاذِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ بَدَأَ بِذُرِّيَّتِهِ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِذْ كَانَا
فِي الْكَهْفِ إِذْ يَقُولُ لِغُلَامَيْهِ
تَمَتَّعَا بِنِعْمَةِ رَبِّكُمَا وَلَا تَجْرِمَا
ذُنُوبَكُمْ ۚ أَلَمْ تَكُونَا تَعْلَمِينَ ۝

البقرة : ۱۲۵

تہ (باد کو سہ وقت تہ) ییلہ ابراہیم پتہ
دہ بن کیشن حکم ہند ذری ہر آرمو تہ
تمو ہادی تم پلور کر تہ۔ (اتھ پیچہ) فرموس
تمو (اللہ تعالیٰ) نہ برہمت تہ پتہ پانہ
لوکن ہند امام مقرر کرن وول۔ دو پتہ (یعنی
ابراہیم) بیہ میانو اولادو اندرتہ (بنادو)

زہ امام) تمو (یعنی اللہ تعالیٰ) فرموس
(ان لہر) میون وعدہ واتہ تہ تہ لمن تام۔ (۲-۱۲۵)

تہ اسہ اس (یقین) مؤسیٰ ہس کتاب
ڈر ہتر تہ امر پتہ سوزر اسہ (تم) رسول (ہم)
توہی زمانان چھو وکھ) تہ عیسیٰ ابن مریم (تہ)
ڈر اسہ کھلہ کھلہ نشانہ تہ روح القدس
کہ ڈر یہ بخشش طاقت (مگر تو ہر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ
بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ
ۚ أَفَكُلَّمَا جَاءَكَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ

أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ
وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ○

البقرة : ۸۸

کوڑو سارے ہند مقابلہ) تو پتہ (وڈی تو
تو ہی نہ) کیا (یہ کتھ چھنا تاپسند پتہ نہ) میلہ
تہ تہ ہر نش کاہنہ رسول یہ (تعلیم) ہتھ آو
تہ تہ تہ نفس پسند اسی نہ کران تہ تہ ہر
کوڑ و تکبر (ک منط ہر) چنانچہ کینہ آ پڑا و و و
تہ ہر تہ کینہ کروی و و کھ قتل (۲-۸۸)

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا
وَعَدُوًّا، حَتَّىٰ لَمَّا آذَرَ كُفْرَ الْعَرُوفِ، قَالَ أَمِنْتُ
أَنْفِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ
بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

تہ اسہ شماردی بنی اسرائیل سدرس (اپور)
تہ فرعون تہ تمکو سند فوج لاریود سرکشی
تہ ظلمہ اللہ انان تمن پتہ تو تانی یوتانی پھٹسہ
تہ بلایہ سہ (تہ تمکو سند فوج) پگڑ و و تہ
تمکو وڈن نہ یہ چھس ایمان انان نہ پس (ہستی)
پہٹ سنی اسرائیلو ایمان اڈن مت چھتس سوا
چھنہ کاہنہ تہ معبود - یہ چھس پتہ مانیر واری
کرن والہو اندر (سپدان) -

أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلُ عَصِيَّةً لِّأُولِي
الْأُلْمَامِ ○

(اسر وڈتس) کیا؟ (تہ چھکھا) و و ڈی
(ایمان انان) میلہ زن تہ تے گوڈ نافرمانی
کرتھ تہ تہ اوسکھ فسادو اندر -

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ
خَلَقَكَ آيَةً، وَرَأَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ
آيَاتِنَا لَظْفُلُونَ ○

لہذا بھی تریہ اسی اڑی کہ وہہ (صرف)
جسہ کو (سہ باقی تھو تہ جزوی) نجات
دوان - میتہ زن تہ نشان بنکھ تمن ہند خاطر
یکم تریہ پتہ پتہ واد چھ تہ یقین چھ لوکو
متر واریاہ تم (تہ) یکم سہ نور نشانو نشہ

یونس : (۹۱-۹۳)

بے شک بیہ خیر چھ۔ (۱۰-۹۱ تا ۹۳)

بیہ کمر تو ہر (بیٹھ) کتابہ متر (میس) مریم سہ ذکر (ایوان چھ سہ) بیان (خاص) گرتھ یہ کتھ ز (ییلہ سہ پنہو آشناو) نشہ مشرقی (طرفس کن اُکس) جایہ گرتھتہ بیٹھ۔

تہ (پانس تہ) تمن (یعنی آشناون) در میان ترون پیرد (یعنی تمن سہو ترہتہ) گرتھتہ کھوٹن پن پان) امر وقتہ سوز اسہ اُمس کن پن کلام اتن وول اکھ ملا یکھ (یعنی جیر اہل) تہ سہ گووتس بروٹھ کتہ اُکس تندرست بشر ستر شکلہ مشرظ ہر۔ (س کن) وون (یعنی مریم) بر چھس تریہ نش خدایہ رحمان سہد پناہ منگان۔ اگر تریہ

کاہنہ تر خوف خدایہ۔ (انہ پلٹھ) وون (تہا ملا یکن) بر چھس صرف چائس رہہ بر سہد سوزمت پانہسیر یتھ زن بر تریہ (وُجیرہ مطابق) اکھ پاک نیچو دہرنے۔ (یس جوئی ہنتر و مبر واتر)

تہ (مریم) وون میہ کتہ سہ نیچو ییلہ زن میہ و نہ کاہنہ مہ ہوز اُتھ تہ چھن لوگمت تہ نہ چھس بر زاہ بدکاری متر ولسہ آوستر

وَإِذْ كَذَبَ الْكُتُبَ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

قَالَتْ إِنِّي آخُوذٌ بِالرَّحْمَنِ وَمِنكَ إِن كُنْتُ تَقِيًّا ۝

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِ يَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۝

قَالَ كَذَلِكَ ۝ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئًا ۝
وَلِتَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَذَخْمَةً مِنَّا ۝ وَكَانَ
أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

(ملائیکن) وؤن نس - یئھے پائٹھو چھ (کئھے تئھے
یائٹھو تریہ ورنٹھ مگر) چانڑی رو بن وؤن یہ
رز یہ کلام) چھ میاڑہ باپتھ سہل - تہ (اُسی
کرون لڑکھ ادر کتھ پاد) میٹھ زن یہ اُسی مکن
ہندہ باپتھ نشان بنا وون تہ پینہ طرفہ رحمت
(ہک موجب تہ بنا وون) تہ یہ (کلام) چھ عا بنس
تقدیرس مشرطہ گامتر۔

وَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

اٹھ پٹھ تل مرکین (پینہ ٹر مٹر) یہ
(بچہ) تہ یہ، پتھ تڑج اُکس دؤر مکاش کون۔
ادر (بیڈ سہ توت وائر) خلاصی ہندی
وادی نی سہ مجبور کرتھ اُکس کھنڑ کئی کس
گوڈس تل (بیڈ مرکیس یقین سپڈ زئس
چھ سہ تھنہ پینہ وول تہ دنیا بچہ طعہ زنی
ہندہ خیال کرتھ) وون۔ ہے افسوس! بڑہ
امر بروٹھے اُسر ہامو ہتریتھ زن میاڈی
یا دے نہونو میرے۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۝ قَالَتْ
يَلَيْتَنِي مَثُ قَبْلَ هَذَا ۝ كُنْتُ نَسِيًّا
مَنْسِيًّا ۝

فَتَنَادَتْهُمَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ
رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۝

ادر نس وؤن (مکن) وسونہ طرفہ آلودتھ
(ہتہ بڑ) عمر مہ ہلیہ - اللہ (نخالہن) چھ
چانڑ وسونہ طرفہ اکھ ناگ یکون تھومت -
(اڈتن گرتھ تہ پان تہ پین نیکہ چھلن)
تہ (تہ) کھنڑ رکیج لٹڈ رڈی زین (لوسہ
تریہ نزدیک آسی) تہ اُڈی زین پانس کون اُڑاوتھ
سہ چھلک تریہ کون تانڑ بتانڑ ہوی۔

وَ هُزِّي لِيْلِكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ
رُطَبًا جَانِيًّا ۝

اد (کیم) کہیہ تہ (ناگہ مشر تہ) چیر (تربش)
 بیہ (پانچ سران کر تہ تہ بکہ چھلتہ) شہلا وری
 نر اچھ پنہنہ - پتہ اگر (اتھ و قلس اندر) تہ
 کانہہ مرد و چھ ہن تہ و نر زلس میہ چھ (خلیہ)
 رحمان سہندہ با پتہ (اکھ) دوہہ دورمت نیاز
 پاٹھو - از کر تہ ہر کالہہ سہو کتہ -

امہ پتہ اون تمہ سہ پتس تومس نش
 سوار پیٹھ کیو وون ہس اے مریم! تہ چھتہ
 بڈ بدکار کورمت

ہتہ بڑ ہارون سہنر بیہ - چون مول تہ
 اوس تہ تا کار انسان کیہنہ، تہ چاڑی موج تہ
 اُس تہ بدکار کیہنہ -

اتھ پیٹھ کور تمہ تس (شرس) کن اش تہ
 تھہ وونس لوکو - اسی کتہ پاٹھو کرو اُس سہو
 کتہ لیس (اتھ تام) مشر لیس مشر بہن وول شر
 اوس -

(بیر بوزنہ) وون (ابن مریم) نر بہ
 چھس اللہ (تعالا) سہند بند تہ تہ چھ میہ
 کتاب بخشا و مشر تہ بہ چھس نبی بنوومت -
 تہ بہ سہن تہ چھس تہ چھس بہ بر کر تہ
 ناگ (ووبود) بنوومت، تہ بہ بونانی نر نہ
 چھس میہ چھ تہمانہ تہ زکا تہ با پتہ تاکہ
 کر تہ امت -

فَكُنْ وَأَشْرَبْ وَتَرَىٰ عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَىٰ
 مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۗ فَقَوْلِي رَبِّ نَدَّتْ
 لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَأْكِلَنَّهُ الْيَوْمَ مَرَاتِيًا ۝

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمُلُهُ ۗ قَالُوا لِمَ زِمْتِ
 لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

يَأْخُذُكَ هَهُؤُنَ مَا كَانَ بَطْنُكَ امْرَأَتًا وَمَا
 كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۝

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۗ قَالُوا كَيْفَ نُحْكِمُكَ مِنْ كَا
 فِي الْمَهْدِ صَيًّا ۝

قَالَ رَبِّي عَبْدُ اللَّهِ ۗ ادْنُبِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
 نَبِيًّا ۝

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيَةً مَا كُنْتُ مَرًا وَلَا ضَعِيفًا
 بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

وَبَرَّ ابْنَهُ الدِّيَنَ، وَكَمْ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

بیہ چھٹنس بہ پیننہ ماجہ سہو نیک
سولوک کرن دول بنوومت تہ بہ چھش نزل لم
تہ بد بخت بنوومت -

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ
أُبْعَثُ حَيًّا ۝

بیہ پیمر دہہ بہ زامت اوسس - تمہ دہہ
اوس میہ پیچہ سلامتی نازل سپڑ مہر تہ پیلہ
بہ مہر تہ پیلہ تر ند کر تہ بہ سہنہ پیہ (تمہ وقتہ
تر سپد میہ پیچہ سلامتی نازل) -

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَدُونَ ۝

(دو چھو) یہ چھہ (حقیقی) عیسیٰ ابن مریم
تہ یہ چھہ تمہ سنداہل - پوز قصبہ مٹھہ مہر
تم (لواکھ) اختلاف چھہ کران - (۱۹-۱۲ تا ۱۳۵)

مریم: ۱۷-۳۵

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا
أْتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَآخَذْتُمْ عَلَيَّ
ذَلِكُمْ لَاضْرِي، قَالُوا أَأَقْرَضْنَاكَ، قَالَ

بیہ (کرو سہ وقت تر یاد) پیلہ اللہ
(تعالیٰ) ہن (اہل کتاب نش) سار کپنہ نبین
پوہ ختہ عہد و پیمان، بیوت تر یوہ سہ تر کتاب تہ
چکمتہ بہ تہ ہہ دلو و - پتہ سہ تہ ہر نش کا نہہ

(تہیہ) رکول نیس یہ کلام پوہ کرن دول آسہ، تہ
پینہ کسہ پیز تہ ہر تہ پیچہ ایمان اُنن تہ ضرور
گترہ سہلس ہلہ مردی کُرُنی - بیہ اوس مو فرموت
تر کیا توہی چھو ہر کران؟ تہ اتھ پیچہ میانی
(تراو تہ آ مہر) ذمہ واری برسر کران؟ (تہ)
تمو اوس و وومت - آ - اسی چھہ ہر کران
فرمود نکھ وہنی رو تہ توہی گواہ تہ بہ سہ
چھس تہ ہر سہو گواہن مہر (اکھ گواہ) -

وہ ذریعے (شخص) امر عہد پتہ پھیرتے
 پتہ لکھ آسن قاسق۔ (۳-۸۲-۸۳)

فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○
 ال عمران: ۸۲

(کرو یاد) یہاں آسہ نئے نئے نیش دیکھ
 پتہ عاید کر مٹر کر خاص کتہ ہند و عہد ہیوت
 مت اوس تہ توہ نیش تہ (اوس و عہد ہیوت مت)
 تہ نوح تہ ابراہیم تہ موسیٰ تہ عیسیٰ ابن مریم
 نیش تہ۔ تہ آسہ اوس تہن سارے اکھ لوختہ
 عہد ہیوت مت۔ (۳۳-۸)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
 وَرَمَّا نُوْحٌ ذُرِّيَّتُهُ دَاوُدَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ
 مَرْيَمَ ۗ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ○

الاحزاب: ۸

۵۔ اسلامک مقدس پیغمبر

آنحضرت ﷺ کی مکس منتر اگست ۱۹۵۷ء عیسوی یس منتر تھنہ پیغمبر۔
 تمن آو تاو کرنہ "محمد" - ییک معنی چھ تعریف کرنہ آمت - ییلہ تم ترہہ
 ڈری وانسہ پیٹھی واڈی - خدایہ سندھ محبتن تھاوڈی تم پنہ کہ چھ منتر جاد کھوتہ
 جاد - بت پرستی تہ بیہ ملک کہن لوکن، بڑن واریا ہن بڈریں خلاف کور
 تمو جنگ تہ یہ کران رووی تم مسلسل بڑیا ترہہ پہل دور اگس غارس منتر
 غور و فکر کران تہ عبادتس اندر مو - ییلہ تر تہی و ہری سپدی تمن سپنر گہ و پرخ
 موحی تہی - بین گہ ڈ نہ کہن قرآنہ آین منتر (۹۶: ۲-۶) او تمن محکم دہنہ
 نہ تم کرن اگس خدایہ سبہ نا و تہج منادی سیکر آدم پاڈ کور تہ پنہ تہ
 انسانہ سندھ محبتک - بیول تہنہس فطرتس منتر تہ یہ اس پیشگوئی آہتر
 کرنہ زردوزیا پیہ پر ہتہ گنہ کسک علم قلم کہ ڈری ہر پھیناونہ - ہم آہ چھ
 قرآن شریفک خلاصہ مرتب کران ۔

اے نبی! اسے چھو تو ہر اللہ خالص منتر موزی
 ہوتی ز تو ہر چھو (دنیہ کجی) نگران تہ (مؤمن)
 خوشخبر و اتناون والی تہ، تہ کافر ن کھوتہ ناون
 والی تہ۔

بیس اللہ (تعالیٰ) سندھ حکیم سوتو تس کن ناد
 دہنہ والی تہ بیہ پر بڑوں انتخاب بناوکل روزنہ
 (امتی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

وَأَعْيَا لَى اللّٰهُ بِأَذْنِهِ دَسِرَا جَا مُنِيرًا ۝

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشْهَادٌ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
سِيْمًا هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ الشُّجُوْدِ
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلُهُمْ فِي
الْاِنْجِيْلِ بِذٰلِكَ زَكَرَهُ الْخَرَجِ شَطَاةً قَاذِرَةً
فَاَسْتَغْلَظَ قَاَسَمُوْا عَلَى سُوْقِهِ يُوْحِبُ
الزَّرَّاعَ لِيَّغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَّ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

الفتح : ۳۰

محمد چھ اللہ (تعالا) سندر رسول تہ یم
لوکہ تمّن سوتی چھو تم چھو کا فرن خلاف
بڑ بوش تھا وان - مگر پانہ وانی چھ اہ
اُس سوتی میچھ ورتاون واول - ییلہ تم وچھ
مکھ تم کیہ مکھ توہی سترکہ رتہ پاک تہ
اللہ (تعالا) سندی فرمانبردار - یم چھ اللہ
(تعالا) سندر خاکس تلاش مشر روزان
تہنتر شناخت چھ تہندلو بتھو پلہ سچان
ہندلو رتہ انوکھ موجود - یہ تہنتر حالت چھ
تو راتس اندر بیان سپر مشر - تہ انجیل
اندر چھ تہنتر حالت بتھو کنی بیان کرنہ امتر
نہ تم (آسن) اکر کھیتر ہندی پاتھو بیگن
زبون تہ پھون ہو پتہ کورن یہ مضبوط
(آسمانی تہ زمینی نور الہ سوتی) تہ زبون تہ پھون گد
وار مضبوط تہ دہے یہ پنہن ہون پلہ - یوتہاں زمیندارس
پند سینہ لچ - امیک نتیجہ نیر کا فر وزن
تمن وچھان وچھان - اللہ (تعالا) ہن چھ
مؤمن تہ عمل کرن والہن سوتی یہ وعدہ
کورمت نہ تمن میلہ معفرت تہ بوڈا جرہ -
(۳۸ - ۳۹)

توہی ووتو نہ (اے لوکہ) اگر توہی اللہ (تعالا)
ہس سوتی محبت تھواں چھو تہ میاتی پاروی کر و
سہ (تہ) کر (اتھ صورتس اندر) تہ ہیہ سوتی محبت

قُلْ اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

وَرَأَىٰ لَكَ لَآجِرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝

وَرَأَيْتَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

القلم: ۴-۵

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ ذَرْبِكُمْ وَلَعِنَ
رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

الاحزاب: ۴۱

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

الاحزاب: ۲۲

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

الاحزاب: ۵۷

بہ سبیلہ و توہمہ (تعلیم سندر فرم) کہ تہمت
یدلہ لیس تہ نہ نہیں ختم سپید۔

(امیر علاؤ چھ اسی پر تہ قسم کران نہ)

توہم چھو (پنہنہ تعلیم تہ علم اندر) نہایت
تھہ درجہ کس اخلاقس پیٹھ قائم۔

(۶۸ - ۶۷ تا ۵)

نہ اسی محمد توہہ اندر کانسہ مرو سندر
بابہ (صاحب) نہ چھ (تہ آسن) مگر اللہ (تعالا)

سندر رسول بلکہ (امیر کھوتہ تہ تھدی)
تیسین ہنتر مہر تہ اللہ (تعالا) چھ پر چھ
کس چیز ہنتر تہ خوب زانی باب۔ (۳۳-۳۱)

تہندہ خاطر (یعنی تم لوکن ہند خاطر)
یک اللہ (تعالا) تہ پتر مس دوہس سہو

رہنچ وہ مید چھ تھاوان۔ بہ چھ اللہ (تعالا)
سند سہا ذکر کران! چھ اللہ (تعالا)

سندرس رسولس مشر کہ اعلا نو مؤنہ
(سہیچ رہن پاری کر فی پتر)۔ (۳۳-۲۲)

اللہ (تعالا) چھ پتر پتر اسی نوس پیٹھ پتر رحمت
نازل کران روزان۔ بہ تہ سندر ملایک تہ۔

دچہ یقینن تہندہ ہاتھ دعا کران روزان) اے
مؤمنو! توہم تہ اسی نوس پتر درود
سوزان تہ دعا کران روزان بہ اسی (خوب)
جوشہ تہ ولولہ سان) تہندہ ہاتھ سلامتی منگان
(۳۳-۵۷)

تہ تہندی تو صورت بختہ - تہ اللہ (تعالا) چھ سہٹھا
بختن دول تہ وتر وزیر رحم کرن دول .

توہر ورو (تر) توہر کرو اللہ (تعالا)
تہ تہندی رسولہ ستر اطا عت (اتھ پٹھ) اگر
تم مجھ پھرن تہ (یا تھو تر) اللہ (تعالا)
چھتہ کافر ستر ہرگز محبت ورتاوان -
(۳۲-۳۳، ۳۳)

اے رسول تہندی رو بہ ستر طرفہ سس کلام (تہ)
توہر پٹھ نازل کرتہ آمت چھ سہ واتنا ورو
(لوکن تام) تہ اگر توہر (تہ) کور و تہ تہ (دروپ)
توہر واتنوو و تہ تمجو سند پیغام (بکل ہے)
اللہ (تعالا) تھا وی و توہر لوکو ہندو حملو نشہ
محفوظ - اللہ (تعالا) ماوہ کافر لوکن ہرگز کامیابی
ہتر) وتھ -

(۵ - ۶۸)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

ال عمران: ۳۲-۳۳

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ، وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ
وَاللّٰهُ يَفْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

الباقية: ۶۸

۶ - عبادت

نماز چھ اسلامیکو پائترو بنیادی رکتو منتر دو ایم ۔ گوڈ نیک چھ خدایہ سبندیں کن آسنس
پیٹھ یقین کرن ۔ نماز چھ سہ ماہ اہم ڈری پیہ اکس شخصہ مشند پینس پاؤ کرن
و اس ستر نزدیکی تعلق قائم کرن تہ مضبوط کرنہ باپتھ تہ تنہ قرب حاصل کرنہ
خاطر ۔ یہ چھ اکھ پُر زور واقعہ خدایہ چھ بوزان تہ بدلہ دوران نمازن ۔

اسلامی تصور نمازن ہند چھ سید سیود تہ بے روک رُوح پیش کرن اکس
سائلہ سند خدایہ عظمتس بروٹھ کرنہ ۔ اللہ تعالیٰ سندس عنایت ، رحم تہ
طاقتہ کس یقینس پیٹھ ۔ عبادتس منتر چھ ادمس تہ ہند بناؤں ادا کردار میان کنہ منتر
یا اتر ہنر ضرور روتھ ۔

حالیکہ تمہیں اوس یوہ ہے حکم دتہ آمت ۔ تہ تم
کرن اکس خدایہ سنتر عبادت تہ عبادت کرن صرف
تہنہ خاطر مخصوص (اتھ حالتس منتر) تم آسن
پسنین نیک رغبتن منتر ثبات قدم روزن وال
تہ (پتہ اوس صرف) امر کتھ ہند حکم دتہ آمت
نہ (تم روزن نماز یا جماعت ادا کران تہ زکات
دن تہ یوہ ہے چھ (ہمیشہ صداقتس پیٹھ) قائم
روزن دول دین ۔

(۹۸ - ۶)

یہ چھ میہ کر دتہ جن تہ انسان صرف پیٹھ
بندگی خاطر پاؤ ۔ (۵۱ - ۵۷)

وَمَا أَرْدَا إِلَّا لِيَحْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الذِّينَ هُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

البینة: ۶

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
الذِّينَ: ۵۷

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى عَسَى الْيَلِي
وَ قَرَأَانَ الْقَجْرِ، إِنَّ قَرَأَانَ الْقَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا ○

توہمی آسمی زلو احتیابِ دلہ (کہ وقتہ) پیٹھ
راثر ہند خوب ابنہ گوٹ گتر ہنس تام (متخلف
بیشترین متر) ہماز برقی یاٹھی ادا کرن روزان
تہ صبحہ کہ وقتک (قرآن) پرن تہ لازم
زانن (صبحہ کہ وقتک (قرآن) پرن پٹھ
پیزی یاٹھی اللہ (تعالا) سندن دربارس اندر
اکھ مقبول عمل۔

وَ مِنَ الْهَيْلِ فَتَمَجِّدْ بِهِ تَأْفِكَةَ لَكَ عَسَى
أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعًا مَخْمُودًا ○
بتی اسرائیل : ۷۹-۸۰

بسیہ رات کینت تہ آسمی زلو توہمی آسمی
قرآنہ کہ ذری بیہ ہنا بندہ کرٹھ، شب بیداری
کرن روزان ایس توہمی پیٹھ اکھ ہر انعام چھ
(پیٹھ کئی) چھ بیکل وھ میدس اندر نہ تہند
روب کری و توہمی شکرانہ کس
کھڑا۔ (۱۷-۷۹، ۸۰)

حَا فُظُّوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَ قَوْمُوا لِلَّهِ قُنْتَيْنِ ○
البقرة : ۲۳۹

توہمی تھوو (ساری نے) ہمازن ہند
تہ (خصوصن) مٹزی مہ ہماز ہند پور خیال
تہ اللہ (تعالا) سندن خاطر روزرو قرآن بردا
سپتھ استاد۔
(۲-۲۳۹)

۷۔ روزہ

قرآن شریف اندر چھ روزہ آمتز مقرر کرنے زونہ ریتھ رمضان مشن
 مالہ مچھ لوونہ پیٹھ آفتاب لوسنس تام۔ بیر چھ اکھ ضبط ورلٹ پیٹھ سوتو صداقت
 چھ ترقی کران تہ بیر چھ بتاوان تلاش کرن وائس کیت روغانی تھنرک لھسن سہل۔
 یس روز در چھ روزان مسہر چھ تہ چین بخشش ہند آگاہ سپدان تہ پیٹھ کئی روزہ
 تھوٹھ چھ رتھن چہرن قاید مند طریقس پیٹھ ورتاوس مشن آرتھ مدد ہوان۔

اے لوگو! ایمو ایمان اون مت چھو! تو ہر
 پیٹھ (تہ) چھ روزہ مقونہ (تھتے پاٹھی) قرآن
 کرنے آمتز پیٹھ پاٹھی تھن لوکن پیٹھ قرآن کرنے
 آمتز آسہ ایم تو ہر بروٹھ گذرے ہتر چھ۔
 چھ دن تولو (روغاتی تہ اخلاقی کمزور یونیشہ) بچو۔
 (لہذا تھو تو ہر روزہ) کینہ گزینر ہند
 دوہ۔ تہ تو ہر اندر یس شخص بیمار آسہ یا
 سفرس اندر آسہ تہ س آسہ بدل دوہ ہن مشن
 بیر تیار (پورہ کرن) تہ تھن لوکن پیٹھ ایم
 امیک (یعنی روزن ہند) طاقت تھوان آسن
 نو۔ چھ واجب (فدیہ کرن) اکس مسکن
 سند کھن چین دین (شرط چھ طاقت
 گزھس آسن) تہ یس شخص پورہ فرمانبرداری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ۝

أَيُّهَا مَعْدُودَاتِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ،
 فَمَنْ تَطَوَّءَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ذَٰلِكَ

سان کا تہہ نیک کام کر تو یہ آسیر تہند
باپتہ بہتر تو اگر تو بہر علم چھو تھا وان تو
(سمجھتہ ہیکو) تہند روزہ تھونہ چھیتہ تہند
خاطر بہتر -
(۱۸۵-۱۸۴-۲)

تَصُومُوا خَيْرٌ لِّلْعُلَمَانِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

البقرة: ۱۸۴-۱۸۵

۸۔ اللہ تعالیٰ سنزورہ تریج کرن

قرآن شریف میں مقرر کردہ امت سے ہر ماہ چھ ماہ امر کہ مقصد ریح دلالت
 ای زکات (زکوٰۃ) ناموسو کران۔ امر لفظک معنی چھ لیس پرورش کران تہ
 پاک کران چھ ساری دولتہ اندر براؤری ہند معنی شہدہ یہ چھ کن روزانی چھ
 سہ چھ رتمن ہند خا طریک تمہ کہ ورتا ویک حق چھ تھ وان ، پاک سپدان۔
 تہ یہ آمدنی براؤری ہنر خید مشر با پتھ خرچ کرن سوسو چھ برادری ہنر بہبودی
 رچھنہ یوان۔ زکات چھ اسلامک تربیم کرن تہ یہ چھ اسلامک مشر تمہ ذمہ
 داری ہنر اپنیچ عکاسی کران یو سہ اکرش شخصس پنہنہ برادری ہندین باین ہند
 حقہ ہنر یوان چھ۔

بہ کرو نماز قائم تہ زکات دیو تہ خدایہ
 سنزورہ خالص بندگی کرن والہن سوسو رتھ
 کرو خدایہ ہنر خالص بندگی۔
 (۲۳-۲۴)

پس تو ہے پیر (تربیلہ خدایہ رزقس مشر
 برکت دی و تہ اے قرآن پران والہو) تزدیکی
 مسکپنس تہ سافر س بخشو تسد حق۔ یہ کتھ
 چھ سہا بہتر رتمن لو کن ہند با پتھ
 یم اللہ (تعالیٰ) سنزورہ رضامندی حاصل کرنی
 بیڑھان چھ۔ تہ تمے لوکھ چھ مرادس واتن
 والی۔ (۳۰-۳۹)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَادْكُمُومَةَ الرَّاكِعِينَ ۝

البقرة: ۴۴

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ
 وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

التورم: ۳۹

اللہ (تعالیٰ) سنز وتر تخریج کرن

اکھ مجلیس کلام ہیئہ سہ چھ پنسن زووسے
 منق بجلہ سان کلام ہوان۔ نتو چھ اللہ
 (تعالیٰ) بے نیاز تہ توہی چھو موہ محتاج
 اگر توہی پھری ووسہ انہ ہنہنر جاہر اکھ باکھ
 قوم بدلاوتھ تہ تم آسن نہ تہندی پاٹھو
 دستی کرن والی)۔

(۲۷۱ - ۳۹)

اے ایماندارو! یہ کیتڑھا اسیر تہ ہر دیت
 مت چھو تمہ منز کرو (یہ کیتڑھا توہی ہیکو خدایہ
 سنز وتر منتر) خرچ۔ سہ ۵۵۵ بیتہ برڈنٹے
 یچہ منز تہ کتہ قسٹک (ہیون) کسٹ، دوستی
 تہ سفارش (کارگر) سپر تہ (اتھ محکمس)
 انکار کرن والی چھو (پنسن پانس پیٹھ) ظلم
 کرن والی۔

(۲ - ۲۵۵)

بیم لوکھ من مال اللہ (تعالیٰ) سنز وتر
 اندر خرچ کران چھ رہن (ہند امر کامسہ)
 ہنر حالت چھو تمہ پھلج ہنٹ یچہ سٹھ ہیلو
 نیرن (تہ) ہر ہتھ ہلیس آسن ہتھ چھلو۔ تہ
 اللہ (تعالیٰ) یس اکر سنہر با پتھ ییترھان چھ
 امر کھوتہ تہ جاو (جاو) چھیس دوان (تہ) اللہ (تعالیٰ)
 چھو وسعت دہ وول (تہ) سپٹا زانن وول۔

بیم لوکھ اللہ (تعالیٰ) سنز وتر خرچ

الْفُقَرَاءَ، وَإِن كَتَبُوا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ ○ محمد: ۳۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا
 رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ
 فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً، وَالْكَافِرُونَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ○ البقرة: ۲۵۵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 فِي حُلٍّ سُنْبُلَةٍ تَائِبَةٍ حَبَّةً، وَاللَّهُ
 يُضَوِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

اللہ (تعالیٰ) سترتہ ترنج کران

کران چھ تہ خرچ کرنہ پستہ چھنہ کتہ قسمک
 احسان پھران تہ نہ چھ کتہ قسمک تکلیف دوان
 تمن (ہندن اعمالن) ہند بدلہ چھ تمن بندس
 رولس نیش (رڑھریکھ) - بیہ نہ آسہ تمن کتہ
 قسمک خوف تہ نہ آسن غم گپن - رڑکھ (وہڑ)
 تہ (تو صورت) معاف کرن چھ تمہ صدقہ
 کھوتہ بہتر - بیہ پستہ اذا واتناون (شور و غ
 سپدان) آسہ - تہ اللہ (تعالیٰ) چھ یے تیار
 تہ مدار -
 (۲-۲۶۲، ۲۶۳)

بیہ یم لوکھ اللہ (تعالیٰ) سترتہ شتوری
 حاصل کرنہ خاطر تہ پن پان مضبوط کرنہ خاطر
 خرچ کران چھ تمن (ہنر خراجاری) ہنر حالت
 چھ تمہ بائج حالت ہش - بیس تھنر جاہ پیٹھ
 آسہ (تہ) اتھ آسہ چروک روڈ پیو مت
 بیہ (کہ وجہ) کتہ تمہ آسہ دھ گتہ ہو دیت
 تہ (رتج آسہ یہ کیفیت نہ) اگر تمہ پیٹھ زور
 سان بارش پیسہ نہ تہ کے پہن بارش
 ہے (سپد اسر خاطر کافی) بیہ یہ
 کینرھا تو ہی کران چھو اللہ (تعالیٰ) چھ تہ
 وچھان -
 (۲-۲۶۶)

یم لوکھ پن مال راتس دھس پو شہ

اللَّهُ ثُمَّ لَا يُثْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
 أَذًى ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

البقرة : ۲۶۲ - ۲۶۳

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ
 أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ۖ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
 فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

البقرة : ۲۶۶

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالسَّيْلِ وَالنَّهَادِ

اللہ تعالیٰ سے تڑپ کرنا

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

البقرہ: ۲۷۵

پاٹھو (تہ) تو تڑپاٹھو (تہ) (اللہ تعالیٰ سے تڑپو
 وتہ اندر) خرچ کران روزان چھ تہن ہند
 خاطر چھ تہندس رہ بس ریش تہند اجسہ
 (محفوظ) بیہ نہ (تہ) آسہ تہن کا تہہ خوف
 تہ نہ گتہن تم غمگین -
 (۲ - ۲۷۵)

۹۔ حج تہ خانے کعبہ

قرآن شریف چھ سالہ نے مسلمان حکم دوان تہ تم کرن عمر مشر اکہ
 لٹہ مکہ شریفیج زیارت اگر تم اندر تو تہ آسہ تہ یہ سفر محفوظ آسہ۔
 امر زیارتی سفرک مرکز چھ کعبہ یس قرآن مطابق چھ گوہ ڈینک گریس خدایہ سید
 عبادتہ باپتہ لدنہ او۔ امر زیارتی سفرک مقصد چھ مسلمان ہندین دین مشر
 بین الاقوامی برادری ہند احساس پاؤ کرن تہ کیہہ خاص رسم پور کرنہ کر ڈری یہ زیارتی
 سفر کرن والین ہندین دین مشر یہ کتہ بہناؤ فی زہ خدایہ چھ ہمن ہنرات
 زندگین ہند مرکزی نوہ قلم۔

(ما اتھ سفرس چھ کاشری لوکھ وہ فی سفر محمود ناؤ سہو تہ نطا ہر کران)

مگر تم لوکھ یم کافر چھ تہ اللہ (تعالیٰ)
 ستر و تہ نشہ تہ بیت اللہ کن گزھتہ
 نشہ چھ رکاوان (حالانکہ سہ بیت اللہ چھ
 تہ یس اسہ تمام انسان ہند خاطر بنوومت
 چھ) تہند خاطر تہ یم تہ مشر رو زہ تہ
 خدایہ ستر عبادت چھ کران سہ ہمن ہند
 خاطر تہ یم جنگلن مشر روزان چھ تہ یس
 کانہ شخص اتھ (سلسل) اندر طلہ
 چہ و تہ کانہ ہجر پاؤ کر کنس دمو آسہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
 لِلنَّاسِ سَوَاءً يَأْتُواكُم فِيهِ وَالْبَاءُ وَمَن
 يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاكِمِ يَطْلِمِ نَذْقُهُ مِن
 عَذَابِ آيَاتِهِ ۝

و دردناک عذاب -

یہ (کرو یاد) سیلہ اسے ابراہیم
بیت اللہ چہ جاہ روزنگ موقہ دیت (تو
وؤس) تر کائہہ چہر بناوی زین نہ سون
شریک - تو میون گر کرن پاک ، طواف کرن
والین ، وہ دنہ روزتھ عبادت کرن والین
رکوع کرن والین تو سجدہ کرن والین ہند
خاطر۔

یہ کرو تمام لوکن مشراعلان کر تم
آسن حج کہ نیستہ تو ہدیش یوان پیدل تو
تہ ترترہ سوار کھستہ تہ یوسہ زیٹھ سفر
کو کمزور آسہ گا ہشر (یترہ سوار) بین
دور دور پیٹھ سہو تو کو کتہ پکان۔

تا کہ تم (یعنی پتہ اول) دھین تھو نفع یم
بتن ہند خاطر (مقرر کرنہ آمتی) چہ تو کیشن
گنتھ دو ہن مشر کرن اللہ (تعالا) ہس
یمو نعترو کو یاد یم اسہ بتن ڈر مشر
چھیہ (یعنی) بڈی جالوز قسم (مثالے گاؤ،
اؤنٹ بیتر) او کو زہ تم کھن تہند ساز
تہ تکسفس مشر پیستس خر پیس تہ کھیا وہن
تہ پتہ کل کرن دور تو پتہ تدرانہ کرن
پوڑ تو گرگ (یعنی تہ کعبہ) طواف کرن۔
(۲۲ - ۲۶ تا ۳۰)

وَاذِّنَا لَنَا لَابُدْهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
أَنْ لَا تُشْرِكَ بِشَيْءٍ وَ طَهَّرْ بَيْتِي
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ○

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
تَرَفٍ عَائِدِينَ ○

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَدَدْتُم مِّنْ
بَيْتِهِمُ الْآنْعَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ○

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَهُمْ
وَلِيَحْلَقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

حج تہ خانے کے عبرت

اتھ مشر چھو کتو کاشتری نشانہ (سورہ) چھ
 ابراہیم سنر روزن جاے تہ یس اتھ اندر
 داغل سپد سہ چھ امنس مشر لیوان تہ اللہ
 (تعالا) ہن چھ لوکن پلھہ فرض کوڑمت
 زہم کرن امہ گر مک حج (یعنی) یس (تہ)
 اتھ تانی گڑھنک توفیق لبہ۔ تہ یس
 انکار کر تہ (سہ تھاون یادز) اللہ (تعالا)
 چھ تمام عالمو نشہ بے نیاز۔

(۳-۹۸)

حج (کر بکو رتھ) چھ (ساری تے ہنڈ)
 زانی تہ مانی مینو رتھ۔ او کو یس شخص بین
 اندر حج (کرنک ارادہ) پوہ ختہ کر (تس
 روزن یادز) جس گڑھنہ کہن (ایامن)
 مشر نہ آسہ شہو تیج کائہہ کتھ کرن
 نہ کائہہ تا فر مانی تہ نہ کئے قسک بھگڑ
 کرن ایجا تہ کی (ہنتر) یوہ سہ (کام) توہر
 کر اللہ (تعالا) پر ہر تا وا تھ (منور ور
 بیہ اچ قدر) بیہ تلو و تہ خرچ (کتو)
 تہ (یاد تقوی) نہ بہتر و تہ خرچ چھ تقوی
 بیہ اسے عقلہ والہو! میون تقوی کر و اختیار

(۲-۱۹۸)

فِيهِ اَيْتٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا رَابِطُهَا وَمَنْ
 دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا، وَرَبُّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ
 الْبَيْتِ مِمَّنْ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ
 كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ال عمران : ۹۸

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَةٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِمْ
 الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقًا وَلَا جِدَالَ فِي
 الْحَجِّ، وَمَا تَفَعَّلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهٗ
 اللّٰهُ، وَ تَزُوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
 التَّقْوٰى، وَ اتَّقُوْا يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ ۝

البقرہ : ۱۹۸

۱۔ تمام انسان تمام مقدس پیغام و اتناؤن

اللہ تعالیٰ سُنَدِ پیغام و اتناؤن مَثر گزٹھ پر ہتھ کتہ جُزس کُن، ایس زَن
مُتعلقہ انسان سُنَدِ اندازس متاثر آسہ کران، خیال یُن تھاوتہ - یہ گزٹھ
یاد تھاؤن نہ مقصد چھہ یہ تر سہ گزٹھ خدایہ سُنَدِ فرمائس قدر کُن تہ
موافق زانن - یہ اؤسول چھہ پوڑ پانٹو و پڑھتا و تھہ رتن ہدایتن مَثر یک حضرت
موسیٰ تہ حضرت ہارونس تھہ طور و طریقس متعلق دتہ آسہ یمن مَثر فرعون
اوس نزدیک انن تہ سہ اوس پچھناؤن -

نہ امر کھوتہ رتھ کتھ کھ سُنَدِ آسہ ایس زَن
اللہ (تعالیٰ) ہس کُن لو کُن ناد چھہ دوان بیہ چھہ
پنہ ایمانہ مطابق عمل کران بیہ چھہ دوان نہ بہ
ہے چھس فرمانبردار و اندہ -

بیہ ہیکہ نہ نیکی تہ بڈی برابر اُسٹھ
تہ توہری دیو ناکارگی ہند جواب نہایت نیک
سولو کرسوتہ - امیک نتجہ نیہر یہ نہ سہ
شخص تر تس تہ توہر مَثر باگ چھہ عداوت
لہن یوان بتر تہند سُن سولو ک و چھتھ
تہند سنج دوست -

تہ (ظلم ترالو بادو جوڈ) چھہ امیک (یعنی
امر قسمہ کہ سولو کگ) توفیق صرف تہنہ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا

يَلْقَاهَا رَآءُ دُوْحٍ عَظِيمٍ ۝

حَمَّ التُّجَدَةِ: ۳۴-۳۶

میلان یک سہٹھا صبر کرن و اڈ پھو تہ نستر چھ
تمن میلان بمن (خدا یہ سہڈ طرفہ نیگی ہندا)
اکھ سہٹھا بوڈ حصہ بیٹھومت آسہ -
(۴۱-۳۶ تا ۳۷)

(تہ اے رسول) توہی اٹیوگھ ناد دتھ
(لوگھ) چکمتہ تہ رزود لقیحڑو سہڈ پینس
روہ بر سہنر و تہ کون - تہ امر طریقہ سہڈ
لیس زن سارک و پے کھوتہ رت آسہ تمن
سہڈ گرو (تمن ہندین اخلاقن متعلق) بخت
تہند روہ چھ (سارک و پے کھوتہ) بہتر
زاناں - تمن (تہ) ایم نمڑ سہنر و تہ اش
ڈوڑ متی چھ تہ تمن تہ ایم ہدایت لیان چھ -

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

اگر توہی (لوگھ زیادتی کرن والین) سزا
دلو اڈ بیشرے توہہ پیٹھ جاوتی کرنہ آوتہ
آسہ توہی دلو تیوت (ہے) سزا - تہ (اسہ)
چھ پنہہ ذاتک قسم) اگر توہی صبر کرو تہ
صبر کرن والین ہند حقہ آسہ سہ (یعنی صبر
کرن) بہتر -

وَأَن عَاقِبْتُمْ فَعَاتِبُوا بِمِثْلٍ مَّا عُوِقْتُمْ
بِهِ. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝

بیہ (اے رسول) توہی بیسیو صبر کاسم
تہ تہند صبر کرن چھ اللہ (تقلا) سہڈ (مدتہ)
سہٹی (ہکان سپدتھ) بیہ مہ کھیو توہی
علم تمن (لوکن ہنتر حالتہ) پیٹھ تہ ایم تدبیر
تم کران چھ تہ کئی مہ کرو تکلیف محسوس -

وَأَضْيُرُوا مَا صَبَرْتُمْ لَّا يَأْتِيهِمْ
وَأَلَّا تَكُ فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَتَمَكَّرُونَ ۝

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ ۝

النحل: ۱۲۶-۱۲۹

وَلَا يَأْتِيَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْءٌ
فَاجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيُخْلِمْهُ
مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَخْلُمُونَ ۝

التوبة: ۶

بیر تھوو یاد زب اللہ (تعالا) چھ پڑی پٹھو
بتمن لوکن سبتو آسان یو تقویٰ (ہک طریقہ)
بیختیار کورمت آسرتو بیہ پم نیکو کار آسن۔
(۱۶-۱۲۶-۱۲۹)

بیر اگر مشرکوں اندر کاتھہ توہ بہ پناہ منگو و
تہ تس دیو پناہ یوتنا فی سہ اللہ (تعالا) سند
کلام بوزر۔ پتہ و اتنا ویون سہ پنسہ امنہ
چہر جاییہ تمام یکبار سہ چھ تہ تہ قومہ یس
نہ حقیقت زانان چھ۔

(۹-۶)

بیر پم لوکھ سرکش ہستی بین ہنتر فرمانبردار
نشتہ بچان چھ۔ تہ اللہ (تعالا) ہس کن چھ نماں۔
تہنہ خاطر چھ پڑ خوشخبر ادوکنی دیو توہی
میانین تہن بدن خوشخبری تیم سڈی کتہ
بوزان چھ تہ پتہ چھ امر اندر ساری وپے
کھوتہ بہتر کچھ سٹا بیا داری کران۔ تہ
لوکھ چھ بین اللہ (تعالا) ہن ہدایت دیت
تہ تہ لوکھ چھ عقلا و زپر۔

(۳۹-۱۹۶۱۸)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَنبَأُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمْ
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

الزمر: ۱۸-۱۹

۱۱۔ آداب، اخلاق تہ اطوار

قرآن شریف چھ زندگی پاتا ورنی نہ زرد کرنی یا امر لستہ ترن، بیچنا وان
 اسلام چھنہ گوشتہ نشینی تہ رہا نیتیک اجازت دوان۔ اکھ صلاح زندگی گذارنس
 کن قدم تراونہ با پتھ چھ کائتہ ہنرن قابلیتین تہ فیاضین ہندیم خد این
 موسیر تمھارو مشرچید، صحتی تہ متوا زن استعمال، زندگی ہندھا بطور۔ یہ عام
 تصور نظر تہ تھوتھ چھ قرآن شریف اخلاقی تہ روحانی قدر رتھرا ورنہ
 با پتھ تفصیل سان ہدایت پیش کران۔ مراد چھ تمام وصفن قایدہ واجز
 تہ مشترکہ، مشر سان ترقی دنی۔

مؤمن ہندرتہ چھ پانہ وانی بائی بائی
 سند۔ اورکتی آسو توہی دھن بارنہن درمیان
 ہم زن پانہ وانی تروان آسن، صلاح کرناون
 تہ اللہ (تعالا) سند تقویٰ کر و اختیار
 بیٹھ زن توہی پتھ رحم کرنہ پتھ۔

اے مومنو! کاتہ قوم مہ آسن بیس
 کائتہ قومس کم پایہ زانھ اسان تہ ہڈان
 ممکن چھ مہ آسہ تہند کھوتہ رت۔ بیہ مہ آسن
 (کتہ قومہ چہ) زتانہ دویمین (قومہ حسین)
 زنانن کم پایہ زانھ تہن اسن تراوان تہ
 ٹھٹھ محول کران۔ ممکن چھ زانہ (دویمہ

لِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
 أَخْوَانِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ
 عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
 نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلَا
 تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّسَانِ

قوم چیر یا دو سحر حالات واجنہ زنا تہ آسن
 تہند کھوتہ بہتر بیہ اسی زلو تہ تو ہوتہ اگس
 بیس طعنہ دوان نہ اسی زلو اگس بیس
 ناکار ناوسو یاد کران تہ کیا نہ ایمانہ پستہ
 فرمانبر داری اندر نیرن چھ سٹھ ہے
 یدتا وک حقدار باوان (یعنی فاسق مند)
 تہ یس نہ تو بہ کر سہ آسہ ظلم

اے ایمان والو! واریا ہو گمانو رشتہ
 اسیو چھ روزان تہ کیا نہ کینہ گمان چھ گوناہ
 بنان۔ بیہ مہ اسیو کھنڈ پرتھان۔ بیہ مہ
 ارسن تو بہ منتر کینہ بین کینن ہنرغ ہتھ
 کران کیا تو ہس اندر کر یا کائہ پنس مولو
 بائی سند ماز کھیون پسندہ (اگر بیہ کتھ
 تھ ہر گنڈ نہ بیہ تہ) تو ہی کڑو یہ ناپسند۔
 بیہ کڑو اللہ (نقالا) سند تقوی اختیار۔
 اللہ (نقالا) چھ سٹھ ہے تو بہ قول کران
 دول (تہ) ویر ویر رحم کرن دول۔

(۶۹-۱۱ تا ۱۳)

بیہ اسیو تو ہی اللہ (نقالا) منتر بندگی
 کران تہ کائہ چیز مہ بنا ولون سند شریک
 بیہ (کڑو) مایس ماجر سٹھ اہسان تہ (بیہ)
 رشتہ دارن تہ یقین تہ مسکین سوتو
 بیہ (دیکھ کتھ) آشنا و ہمساین تہ غار
 آشنا و ہمساین بیہ (لمر) بہن والین لوکن

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنْ
 لَّمْ يَنْبَغْ لَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنْ
 الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَاِذَا
 يَخْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِيْحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ
 يَّاْخُلَّ لِحَدِّ اَخِيْهِ مِيْثًا فَاَنْصِتُوْا وَاَنْصِتُوْا
 لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

الحجرات : ۱۱-۱۳

وَ اٰغْبُوْا اللّٰهَ وَاَلَيْسَ لَكُمْ شَيْءٌ
 وَّ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِيْذِي الْقُرْبٰى وَاَلَيْسَ
 وَاَلْمَسْكِيْنَ وَاَلْجَارِى وَاَلْقُرْبٰى وَاَلْجَارِى الْجَنْبِ
 وَاَلصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ وَاَمَّا مَلَكَتْ

تو مسافرین تہ (تمن سوتو تہ) مہندی توہر
 ما یک چھو۔ (تہ) ہرم تکبر کرن واک تہ
 تھزی تالہ پین واک آسن رتمن چھتہ اللہ
 (تعالا) پند کران۔

بیکر (پانہ تہ) بو نخلت کران چھ تہ
 (بین) لوکن (تہ) چھ بو نخلت کر مچ سیکہ
 ہن دوان۔ بیہ یہ کینترہا تمن اللہ (تعالا)
 ہن پنہر فضلہ سوتو دیت مت چھ تہ چھ کھٹان
 تہ اسہ چھ گافرن ہند با پتھ ذیل کرن وول
 عذاب تیار کورمت۔

بیہ بیکر لو کھ پین مال لوکن ماوہ نہ خ طر خرج
 کران چھ تہ نہ چھ اللہ (تعالا) ہس پٹھ ایمان
 تموان تہ نہ آخر تہ کس دہ ہس پٹھ (تمن)
 ہند انجام آسہ خراب (بیہ) سہ شخص (تمس)
 شیطان سوتو بوج آسہ (سہ تمھاون یاد تہ)
 سہ چھ سٹھانا کا سوتو بوج۔
 (۲)۔ (۳۹ تا ۲۴)

اللہ (تعالا) چھ پڑی پاٹھو عدک، احسانک
 تہ (دہ پرن تہ) پینو سندی پاٹھو (زاتک)
 تہ پتھ کو مدد) دیک حکم دوان تہ (پر ہتھ
 کتر قسب) بے جیانی تہ ناپسند پینہ واجھو
 کتھو تہ بغاوت تہ نشہ پتھ رٹان۔ سہ چھ توہر
 نصیحت کران مٹھ توہر سمجھو۔

أَيَّمَا نَكْمَدُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
 فَخُورًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُوعُوا
 وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ
 الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

النساء: ۲۷-۲۹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
 ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

بہ (پڑی وزیر) اللہ (تعالیٰ) سُنَد (یعنی
 تس سستی کورمت پین) عہد سیدلہ تہ ہر (تس
 سستی کاٹہ) عہد کورمت آسو۔ سہ کرڈ پوڑ
 بہ گزہہ نہ سہ قسم پھڑراون سیدلہ تہ ہر سہ
 پوختہ کورمت آسو تہ سیدلہ تہ ہر اللہ (تعالیٰ)
 تسزدرے کرٹھ) پین ہا پین بنومت
 آسو۔ یہ کیشترھا توہی کران چھو اللہ (تعالیٰ)
 چھ تہ پڑی پاٹھو زانان۔

بہ ہر سہ بنیو تس زانان ہندی پاٹھو سہ
 پست کتہ ہر تس سترس امکہ مفید لگڑھتہ
 پتہ تڑٹھ پینو پینو کرڈ سستی (د پتھ
 کتہ ز) توہی بناو پینو قسم فریہ کرڈریہ
 پانہ وافی رو سوخ بڑا ونک ڈریہ۔ امہ
 نو فہ کتہ ز کاٹہ قوم گزہہ نہ پین کتہ قوس
 مقابلہ جاد ط قور سپن اللہ (تعالیٰ) تہ
 چھو صرف (تہر وقیہ) تہ ہر ہر (حکو)
 ڈریہ آزاوان تہ قیامتر دہہ ہر سارے
 حقیقت تہ ہر واش کڈھتہ ہاو تہ ضرور۔
 (۱۴-۹۱ تا ۹۳)

اے ایماندارو! توہی سوز پوڑ پاٹھو
 انصاف پتھ قایم روزن والی (نہ) اللہ
 (تعالیٰ) سید خاطر گواہی دینہ والی۔ ا د
 اگر (تہنہر گواہی) تہ ہر پانس (خلاف)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا
 تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ عُرْسَهُمْ وَ
 قُوَّةَ أُنْكَاهٍ، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا
 بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ
 أُمَّةٍ، إِنَّمَا يَبْلُغُ كُفْرًا، وَكَيْبَتِنَ لَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

النحل: ۹۱-۹۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
 بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ أَنفُسَكُمْ أُو
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَنْ تَعْدُوا، وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ حَمِيْرًا ۝

النساء : ۱۳۶

یا مائیس ماجہ یا نزدیکی آشناؤں خلاف
(تہ گترہاں آسہ - اگر سہ (یس مستحق گوہی
دینہ آمتر چھید) مالدار آسہ یا مہ محتاج
آسہ تہ اللہ (تعالا) چھ (دہ لونی صورت
متر تہند کھوتہ) بیک دہ لونی ہند خاراہ
اوپن مہ آسو توہی کران (کنہ ذلیل) خاہتر
ہتر پاری - یقہ زن توہی عدل ہیکو کر تھ
تہ اگر توہی (کاہنہ شہادت) کھبو یا ڈان
کرو (حق ظہر کر تہ نشہ) تہ (یاد تھوہ ز)
یہ کینترھا توہی کران چھو اللہ (تعالا) چھ
پڑی پانھو تمہ نش آگاہ -
(۱۳۶ - ۲)

اللہ (تعالا) چھینہ ناکار کھتہ ظہر کر تہ
پسند کران - وول گوو بیس پیچہ ظلم کر تہ
آمت آسہ (سہ ہیکہ تہ ظلمک اظہار کر تھ)
تہ اللہ (تعالا) چھ سہٹھا بوزن وول (تہ)
خوب تران وول -

اگر توہی کاہنہ نیکی ظہر کر تہ یا کھو
سہ یا (کالنہ ہتر) بڑی کر تہ معاف تہ
(ز اول تہ) اللہ (تعالا) چھ بے شک سہٹھا
معاف کرن وول (تہ) سہٹھا قہ در تھ
تھون وول -
(۱۳۶ - ۱۵۰ - ۳)

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّ مِنَ
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

إِنْ تُبْدُوا حَمِيْرًا أَوْ تُخْفُوْهُ أَوْ تَخْفُوا عَنْ
سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝

النساء : ۱۵۹ - ۱۵۰

اے ایماندارو! توہم گنہگار ہو استاذِ انصاف
 سان اللہ (تعالیٰ) سب سے بڑھ کر گواہی دوان
 تہ گنہ گوار مجھ دشمنی سے ہرگز اٹھ کر تم سے بچھ
 آماد کری و۔ نہ توہم کرو نہ انصاف۔ توہم
 کرو انصاف سے چھ جاہ نزدیک تقویٰ (ہم)
 تہ اللہ (تعالیٰ) سب سے تقویٰ کرو اختیار۔
 یہ کینترتھا توہم کران چھو اللہ (تعالیٰ) بیٹھ
 یقین کر لیتے آگاہ۔

یو لوکو ایمان اؤمٹ چھ تہ تمو چھ نیک
 عمل کری مہتر۔ تم سب تو چھ اللہ (تعالیٰ) ہن
 وعدہ کرمت نہ تمہند باپتھ چھ بخت مش تہ
 (سٹھا) بوڈ اجر (مقدر)۔
 تہ یو لوکو کفر اختیار کرمت چھ تہ سانی
 آہ چھ کہ اپڑادی متی تم لوکھ چھ جہنمی۔
 (۵ - ۹ تا ۱۱)

بیر مہ کریو کہ مفلسی ہند خوقہ پنہی اولاد
 قبل۔ (تہ) چھ اسی رزق دوان تہ توہم
 تہ (چھ اسی رزق دوان) ہم قبل کری
 چھ بے شک (سٹھا) بڑ غلطی۔
 بیر مہ گڑھو نہنس قریب (تہ) سہ
 چھ یقین کہ تہ بے حیالی تہ سٹھا ہنا کاہ
 و تھ۔

تہ تیس رزو (مارن) اللہ (تعالیٰ) ہن مرام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
 شُهَدَاءَ آبَائِنَا لِنَفْسِنَا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوِّمُوا
 عَلَىٰ آلَا تَحْدُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ وَلَا تَحْسَبُوا
 عِلْمَكُمْ عِلْمَ الْعَالَمِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
 وَأَمَّنُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَا تَحْمِلُونَ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذِبُوا بَيِّنَاتٍ أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

السائدة: ۹-۱۱

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ، تَحْنُ
 تَزُدُّكُمْ وَإِن كُنتُمْ لَكُمْ إِتَّكَمُوا كَاتِ خَطَا
 كَثِيرًا

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّفَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ
 سَبِيلًا

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

وَمَنْ قُتِلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا
يُشْرَفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَطْلُومًا ۝

گنہگاروں کو قتل کرنا جس شخص کے مظلوم (سیدھے) ہونے سے
ماریاں پیسے - تیندیس و ابریشم سے چھوڑ کر
(بدلہ ہنگ) بے اختیار دیتے تھے - اور کئی
(چھوڑتے تھے) طریقہ یہ ہدایت نہ (سے گزرتے
نہ (دقتیں) قتل کرنا مشر (ساتر طرفوں
مقرر کرے متہ) حد نہیں نیرن (اگر سے
حدس اندر رونہ) تو یقیناً اسے (سون)
مدد ملے گی پر ہتھیاروں سے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدَّهٖ ۝ وَاَذْفُوا بِالْعَهْدِ
اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝

بیمہ سے بچو (گنہگاروں) یتیم سندن
مالس کن تو ہی تمہارے طریقہ واریس (یتیم
سندن حقہ) زیادہ جان اسے یوتانی سے
پنہر مضمونی، منہر وائسہ واتہ - بیمہ کرو (پنہر)
وعدہ پورہ (تیکیا نہ) پر ہتھیاروں سے پائس نسبت
بیمہ (اگر نہ کہ دہہ) جواب ہنہ۔

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ وَاَنْزُوا بِالْقِسْطِ اِس
الْمُسْتَقِيْمِ مَخْلٰتْ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

بیمہ بیلہ تو ہی (گائسہ کپنہ) منہرہ دہہ
نگو تو منہرہ اسو پورہ دوان بیمہ (بیلہ
تو، لہرہ دیو، تیلہ تہ) اسو دوان سیوڈ
تر کر سوتو تو، لہرہ - یہ کتہ چھ سارہ دوسے
کھوتہ بہتر تہ انجام کہ لہماظہ چھ سارہ دوسے
کھوتہ پورہ۔

وَلَا تَغْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمًا اِنَّ السَّمْعَ

بیمہ (اسے بوزن والہ) بیمہ کتہ ہند علم
تزیہ آسے نہ، تیج پاریوی مہ کر (تہ کیانہ)

وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝
 کن تو اُچھ توہ دل، بھین سارے مستلق
 بیچ (تزیی) پر ترھنہ -

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
 الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝
 بیہ مہ پکو مبترا تر پچھ تھنر نالہ تیر کیا زہ
 بیتھ گئی نہ، بیگو توہی ملکہ کس اُتھقس و اُتھق
 تو نہ بیگو (بیتھ گئی قومہ کھن) سردارن ہند
 تھوڈ رو تہر لبٹھ -

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝
 بنی اسرائیل : ۳۲-۳۹
 یو حکمو اندر پرتھ ارچ (یعنی کامیہ نر)
 نا کار صورتھ تہندس روہیں نش ناپسندیدہ
 (۱۷ - ۳۲ تا ۳۹)

۱۲۔ اقتصادی نظام کی بنیادی اصول

اسلام کی بنیادی اقتصادی تصور چھ تر پر ہتھ کتر چیزچ قطعی مالکیت چھ خدایس اتھ۔ فرد ستر قونونی ملکیت یعنی جائیداد کہ ملکیتہ کہ استعمال کہ، تہ منتقل کرنہ کہ حقیق ضمانت چھیہ اسلامس اندر موجود۔ مگر سارے ملکیت چھ اتھ اخلاقی فرض تاہیا تر سماجکی ساری فرقہ چھ تمام دولتہ منز و اوجیب حق تھاوان۔ فرضہ کس اتھ حصص چھ قونونی شکل دنہ آہتر تہ یر چھ قونونی استحکام کہ ڈری یر با اثر آمت بناونہ۔ مگر بوڈ حصہ چھ رضاکارانہ کوششہ عملہ منز آنتہ ستر حاصل کرنہ آمت یعنی قصہ کھوتر قصہ ڈی رو حافی تہ اخلاقی فائیدہ تمام تعلق تقون والین ہندہ حقہ حاصل کرنہ چہ خاہتر ہندہ ڈری یر۔

یہ (گروہیہ یاد) بیلیہ آسہ ملائین وون نہ
آدمس (پاؤ کرنہ کس شکرانس منز) گروہ (خدایس)
بگرو۔ تہ ابلیس وراہی کور سار وے سجو دہ
تھو کور نکار۔

اتھ پیٹھ وون آسہ (آدمس) اے آدم یر
(ابلیس) چھ پڑی پاٹھو چون تہ چانین ستر
باجن ہند دشمن۔ اوکڑ کڑی و یر توہ ہسہ
دوہوننی (فریقین) جنتہ اندر تہ امر کس پنجیس

وَاذْقُلْنَا لِلصَّالِحِينَ اِسْحٰدًا وَاِیْلٰدًا فَسَجَدَ وَاِیْلٰدًا
لِابْلِیْسَ ؕ اَبٰی ۝

فَقُلْنَا یٰۤاٰدَمُ اِنَّا هٰذَا عَدُوُّكَ وَاِلٰدُكَ

فَلَا يَخْرُجَتْكُمْ مَاعِنَ الْجَنَّةِ فَنَشْتُمْ ۝

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهِمَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهِمَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝

طہ: ۱۱۷-۱۲۰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا
تُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

البقرة: ۱۸۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

النساء: ۲۹

اندر پیو توہمی (تو تہند ہر کاتبہ سوتی بوج)
مہیتس منتر -

یے شک چھ اتھ (جنس) اندر چاہر با پیچہ
یہ (مقدر) تر تر روزکھ نہ بلوچھ (تو نہ چانی
س تھی) تو نہ روزکھ تر نہ پتھ توں -

تو نہ روزکھ تریشہ ہوت تو نہ ذرکھ تاہو -
(۲۰-۱۱۷ تا ۱۲۰)

بیہ مہ کھیو توہمی پن (یعنی پستین باہن ہند)
مال پاتہ وانی (رہتھ) اپر (تو فریبہ) کر ڈریہ
تو نہ نیو تا ویو کھ تم (جاہداد) جا کر من کن
(امر غرضہ کئی) میٹہ زن توہمی لو کھ ہند مالک
کاتبہ حصہ زارتھ مانٹھ ناجائز پاتھو شر ڈپراوو -
(۲-۱۸۹)

اے ایماندارو! توہمی مہ کھیو ناجائز پاتھو
پن مال و لہ فی گوڈ پانہ وانی تجارت کر ڈریہ
(مال جاہل کرن) چھ جائز - توہمی مہ کر یون
پن پان قبل - اللہ (غالا) چھ پری پاتھو توہہ
پیچہ وزیر وزیر رحم کرن دول -

(۴-۳۰)

۱۳۔ جہاد - خدایہ سنسزوتہ متز بہلہ پاپیہ کوششہ

جہادک معنی چھ کتبہ تر نارضا مندی ہندس چہرس سہتو جنگ کرنس متز پین
بھر پور قوت کامر لائن - پیر چھہ تر تیر رنگہ ، اُس دپد بدید دشمنس سہتو
ہا شیطانس سہتو ہا پینہ ہنس نفس سہتو ۔

قرآن چھہ پچھناوان بیبلہ جنگ چھہ وہ تھان ییر گتھہ تھہ اندازس مسنز نطاوہ
ہن - چھہ زن کم سے کم مقدارس متز رُوک تہ جا یادک تہ تھان سپد
تہ رتس برکتہ کرنہ گتھن یوت و تہوت جلد اختتامی تہ تھس پیٹھہ واتنادو
ہینہ ۔

تم لوکھ ہین سہتو (تحقہ) جنگ کرنہ یوان
چھہ تھن تہ چھہ (جنگ کرنک) اجازتھہ دینہ
یوان تکیا ز تھن پیٹھہ چھہ ظلم کرنہ آمت تہ
اللہ (تعالا) چھہ تھندس مدس پیٹھہ تھہ درتھہ تھوان ۔

إِنَّ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا إِذْ
أَنَّهُ عَلَىٰ نَجْرِهِمْ لَقَدْ يُرُ

(ہم چھہ تم لوکھ) ہم پینو گرد اند برکتہ
جائزہ وجہ بغار کڈ تہ آہ صرف ہین ہندس
ہتہ سے وہ تھس پیٹھہ نہ اللہ (تعالا) چھہ سون
روح - تہ اگر اللہ (تعالا) یو (یعنی کافر)
اندہ کیشنر، کیشنر ہندہ ذری ہیر (شیطانہ
لہ نشہ) بیتہ ربہ کھ نہ تہ گر جہ ، تہ ہودہن
ہندی عبادت گاہ تہ مشید، ہین اندر اللہ

بِالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِخَيْرٍ حَقًّا
إِنَّمَا أَنْ يَفْقَهُوا رَبَّنَا اللَّهُ، وَلَوْلَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
صَوَامِعُ دِينِهِ وَصَلَوَاتُكَ وَمَسْجِدُكَ
فِيهَا سُمُّ اللَّهِ كَثِيرًا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ

(تعالا) سُنْد نَاد ہینتہ یوان چھہ ، بیہ ہن
 بُر باد کرتہ ۔ بیہ کر اللہ (تعالا) پُزری پاتھ کرس
 مدد یسُ تَسُد (یعنی تَسُد دینک) مدد کر اللہ
 (تعالا) چھہ بے شک سہٹھا طاقتہ وول (تہ)
 علیہ وول - (۲۲ — ۴۰، ۴۱)

اللہ (تعالا) چھو تہ توہ ہر تہن لوکن سوتہ
 نیکی کرس تہ عدلہ وول ورتا و کرس ٹھور کران
 یمو توہ سوتہ دینی اتھلا تہ کوزہ لڑائی کرتہ
 بیہ یمو توہ پسنہو گرو اندر کڈی و تہ ۔ اللہ
 (تعالا) چھہ انصاف کرن والہن پسند کران

اللہ (تعالا) چھہ توہ ہر صرف تہن لوکن
 سوتہ (دوستی کرس) منع کران یمو توہ سوتہ
 دینی اتھلا تہ کوزہ جنگ کوزہ تہ یمو توہ گرو اندر کڈی
 و یا توہ کڈتہ تہ تہنس منز کوزہ توہ ہند ہن
 باقی دشمن اتھ روٹ تہ یم لوکھ تہ تمیقین
 لوکن سوتہ یارا تہ لگن تہم چھہ ظالم -
 (۶۰ — ۹، ۱۰)

اے مؤمنو! کیا یہ دموواہ توہ ہر اکہ تہ تجارت
 خیر یس توہ ہر دردنگ عذابہ نشہ بچاؤ۔
 (سہ تجارت چھہ یہ) توہی اُلو اللہ (تعالا)
 ہس تہ تہندس رسولس پیٹھ اپمان بیہ کرو اللہ
 (تعالا) سبزوئی و تہ منز پینتہ مالہ تہ جانو سوتہ
 جہاد۔ اگر توہی زانو تیلہ چھہ یہ توہ ہند خاطر

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى بَیۡعَارٍ

الْحِجَابِ ۙ اِنَّكُمْ لَعٰیۡشُونَ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي
 الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ
 تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِيْنَ ۝

لَا تَمَّا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي
 الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوْا عَلٰى
 لَاخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلّٰوْهُمْ ۙ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى بَیۡعَارٍ
 تُحٰۤیۡنِكُمْ مِّنْ عَدَاۤیۡبِ اٰلِیۡنِیۡمٍ ۙ
 تُؤْمِنُوْنَ بِاٰمِیۡنِیۡهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ تَجَآهِدُوْنَ فِی
 سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَیۡرٌ
 لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

الصّف: ۱۱ - ۱۲

قَاوَلَيْكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

المستحثة: ۱۰-۹

سہما بہتر۔

(۱۲۶۱۱ - ۶۱)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

العنکبوت: ۷۰

بیر تم (لوکھ) ایم اسے سستی رینج کوشش
چھ کران۔ اسی بختو تم نور نور تو فسق پنہن
وقت کن پیک۔ تو اللہ (تعالا) چھ پزی پاٹھ
ہمان کرن والین سستی۔
(۲۹ - ۷۰)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا جَاهِدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ الْقَائِدُونَ

التوبة: ۲۰

(تم لوکھ) یو (زن) ایمان اولن بیر یمو
ہجرت کر تہ (پتہ) کوڑکھ اللہ (تعالا) سبزی
ونہ منتر پنہنو مالو (ہند ڈری بیر) تہ جالو
ہند ڈری بیر (تہ) جہاد (تم) چھ اللہ (تعالا)
ہس ہنس درجس منتر سہما بلند۔ تہ تے لوکھ
چھ کامیاب گزھن والی۔
(۲۰ - ۹)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعَدًّا
عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوَارِثِ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ
الْقَائِدُونَ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ

اللہ (تعالا) ہن چھ مؤمن ہنس ہند کر زو
تہ مال (امر و عدو سان) اسی، تہ سستی زہن
میلہ جنت (تہ کیا زہ) تم چھ اللہ (تعالا) سبزی
ونہ منتر لڑان۔ پس (یا تہ) چھ (تم) پنہن
دشمن ماران یا چھ پا تہ مار تہ یوان۔ یہ چھ
اکھ تہ تہ وعدو یس تس پٹھ لازم چھ بیر تہ اس
تہ انجاس (منتر تہ چھ بیان کرنہ امت) تہ قرآن
منتر (تہ) بیر اللہ (تعالا) سبزی کھوتہ پنہن
وعدو پوہ کرن دول کس چھ؟ لہذا (اے مؤمنو)
پنہن اتھ سو دہس سپد و خوش یس تہ ہر

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

التوبة : ۱۱۱

کورمت چھو تہ یسے چھ سو بڈ کا میانی دیمیک
مؤمن وعدہ دہہ آمت چھہ
(۹-۱۱۱)

مومنوں اندر تھو بہتہ روزن والی کین کا تہہ
ضرر و تھوت چھہ، تہ پنجر مال تہ جان ہتھہ اللہ
(تعالا) ستر و تہ منتر جہاد کرن والی چھہ برابر
(اُس تہہ ہیکان) اللہ (تعالا) ہن چھہ پنہو
مالو تہ جالو رنگی جہاد کرن والین (یتھہ کن)
بہتہ روزن والین ہند کھوتہ در جس منتر فقیت
دتر مٹر - بیہ چھہ ساری نے ستر اللہ (تعالا)
ہن جانہ کر تک وعدہ کورمت - تہ اللہ (تعالا)
ہن چھہ جہاد کرن والین (یتھہ کن) بہتہ روزن
والین ہند کھوتہ (سہٹھا) بڑ اجرک وعدہ
کر تھہ (ضورور) فقیت دتر مٹر -
(۴-۹۶)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَدِرًا
أُولِي الضَّرَرِ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَأْمُرُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، فَصَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
يَأْمُرُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى الْقَدِيدِينَ دَرَجَةً،
وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَادِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

النساء : ۹۶

۱۲۔ مومن ہندی اوصاف تہہ کردار

قرآن چھ خدا بس پٹھ اعتقاد کہ یقین و وضاحت کران تہہ بیس چھ توجہ پھران
 خدایہ سبند و وجود کین تو بوتن کن - بیہ چھ پُر زور اظہار کران تہہ خدایان چھ
 پن کلام وحی ہند ڈری بیہ سوزمت - اگر خدایے پینو اوصاف پتہ پن پیغمبر
 تہہ تہندین پارو کارن کن نطہ ہر کرنی بتد کرے تیلد گرتہ ہے خدایہ سبند
 آسک یقین نایود - اوکون چھ بیہ لازمی زیوتام آدم ذات موجود چھ الہی وحی
 گرتہ ہوتو اندر کانسہ نتہ کانسہ پٹھ جاری روزنی ۔

(بیہ چھس پران) اللہ (تعالا) سبند ناوہتہ
 بیس حد رؤس کرم کرن دول تہہ ورتہ ورتہ
 رحم کرن دول چھ۔

دکابل (مؤمن) واتی پنہن مقصدس -
 نرم (مؤمن) بیم پنہن ہمازن مشرعازی
 بورت رڈیہ اختیار کران چھ۔

بیہ بیم فضول کھونش پتہ روزان چھ۔
 بیہ بیم زکات (باحساب پاٹھی) دیوان چھ۔
 بیہ بیم پنہن شرم گاہن ہنز حفاظت چھ کران۔
 پنہو گرو اجنہو یا بیم تہندس ڈچھن اخص
 تل ملکیتہ پاٹھی آشر چھ، تمہ ورتی ڈیوتہن
 لوکن بیہ نہ کتہ قسبچ ملا متھ کرنہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝

وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ النَّوَءِ مُعْرِضُوْنَ ۝

وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلرَّحُوۡةِ قَاعِلُوْنَ ۝

وَالَّذِیْنَ هُمْ لِغُرُوۡجِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝

لَا اَعْلٰی اَزۡوَاجِهِمْۙ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیۡمَانُهُمْ

ۙ قَاتِلُهُمْ غَیۡرَ مُؤۡمِنِیۡنَ ۝

فَمَنْ ابْتغَىٰ ذَرَاءَٰ ذٰلِكَ قَاوَلٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

وَالَّذِيْنَ هُمْ لَا مُنْتَهِيْمَ وَاَعٰهَدُهُمْ رَاْعُوْنَ ۝

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰٓ صَلٰوٰتِهِمْ يَحٰفِظُوْنَ ۝

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِيْزَادُوْنَ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ۝

المؤمنون : ۲-۱۲

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا

يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

وَلَا يَزْنُوْنَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اٰثْمًا ۝

يُضَعْفِلُهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدُ

فِيْهَا مَهْمًا ۝

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا

قَاوَلٰٓئِكَ يَبْذُلُ اللّٰهُ سَيِّاَتِهِمْ حَسَنٰتٍ ،

وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا ۝

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ

بسیہ یکم زن امر و در ای بیہ کنیز کتھ ہنز خا ہش
کرن تم لوکھ آسن زیادتی کرن والی ۔

بسیہ تم لوکھ (یعنی گا بل مؤمن) یکم پسنہن
اماتن تہ پسنہن و عدن ہند خیال تھا و ان چھ ۔

بسیہ یکم لوکھ پسنہن نہمازن ہنز راجھ کران چھ ۔
یکے لوکھ چھ اصل و اُرت در ۔

یکم جنگو و اُرت در آسن تم آسن اتھ
مشر ہمیشہ روزن والی ۔
(۲۳ - اتا ۱۷)

بسیہ چھ تم لوکھ تمھو آسان ز اللہ (تعالا)

ہس و را بی چھنہ کانسہ بیس آو و ان بسیہ نہ

چھ کانسہ زو ز ا ن ز قبل کران ۔ بس اللہ (تعالا)

ہن حفاظت آسہ بخشو ۔ (الاکر شری) حق

آسہ ۔ بیہ نہ چھ ز ناکران تہ یس اکھ شہ کلام

کر سہ لبر پسنہ گھ تہ ہک بدلہ ۔

قیامت دھہ بیہ تسند خاطر عذاب تہور

کرنہ ۔ تہ اتھ اندر گرتھ ذہیل حالتش مشر و ان

تمھو سند و را بی یس تو بہ کور تہ ایمان

اونن تہ ایمانہ مطبق کرن اعمال ۔ ا د یکم

لوکھ آسن تمھو ز اللہ (تعالا) بدلا دہتم شہ

بدر بیہ نیکو سہو ۔ تہ اللہ (تعالا) چھ

بوڈ بخش مار تہ مہربان ۔

بسیہ یس تو بہ کر تہ تمی مطبق کر عمل ۔ دلو

صورتس اندرتہ (چھ سہ ماہ جان)
 (اے رسول) تو ہی دُور زمین زِ میون لہ
 کیاہ پر وای پیچھ تہند کران اگر تہند طرفہ
 دعا (تہ استغفار) آسہ نہ او کتہ ییلہ
 تہ ہس (اللہ ہی شینچہ خبر) اپر آدو۔ تہ
 امیک عذاب روزی و تہ ہس سوتی لاکھ
 (۲۵ - ۴۹ تا ۷۸)

تم لو کہ میو وون اللہ (تعالیٰ) چھ سون
 روہ۔ پتہ گرو مستقل مزار سان اتھ
 عقیدس پیٹھ قایم۔ تمس پیٹھ سپدن نازل
 ملایکھ یہ زمان زہر کھو تر و تہ کتہ پتہ مسر
 غلطی ہنر نکر مہ کرد تہ یہ جنت حاصل سپدن
 پیٹھ سپد و خوش سیمیک تہ ہس سوتی وعدہ
 کر تہ اوس امت۔

اُسکی چھ دنیا ہس اندرتہ تہند دوست
 تہ آخرتس مشرتہ روز و تہ ہس دوست۔ بیہ
 بیتھ (جنتس) مشرتہ تہ ہس دل کرد تہ ہس
 بیٹو و (تہ) بیہ بیہ تو ہی منگو تہ بیٹو تہ ہس
 اتھ مشرتہ۔

یہ آسہ بخش بار (تہ) حد رؤس کر م
 کرن و اوس خدا یہ سبتہ طرفہ پتہ ہی لا نہ
 ہندس طریقس پیٹھ۔

(۴۱ - ۳۱ تا ۳۳)

قُلْ مَا يَخْبُؤُا بِلَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ
 كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

الفرقان: ۶۹ - ۷۸

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ادْعُنَا اللَّهُ شُرَّةً
 اسْتَقَامُوا اتَّخَذَ لَ عَلَيْهِمُ الْمَلِيكَةُ أَلَّا
 يَخَافُوا وَ لَا يَخْرَتُوا وَ أَبْشَرُوا بِالْحِجَّةِ
 الَّتِي كُتِبَتْ لَهُمْ فَوَعَدُوا ۝

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا
 تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝

نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝

یقین چھ اللہ (تعالیٰ) ہن پور پور مسلمان
 مردن تہ پور پور مسلمان زنان، پور پور
 مؤمن مردن تہ پور پور مؤمن زنان، پور پور
 فرمانبردار مردن تہ پور پور فرمانبردار زنان
 تہ پور پور پور پور دن والہن مردن تہ پور پور
 پور دن واجتہن زنان، پور پور صبر کرن والہن
 مردن تہ پور پور صبر کرن واجتہن زنان، پور
 پور عاجزی باون والہن مردن تہ پور پور عاجزی
 باون واجتہن زنان، پور پور صدقہ دینہ والہن
 مردن تہ پور پور صدقہ دینہ واجتہن زنان، پور
 پور روزہ دار مردن تہ پور پور روزہ زنان، نین
 شرمگاہن ہنر پور پور پور حفاظت کرن والہن
 مردن تہ پستہن شرمگاہن ہنر پور پور پور
 حفاظت کرن واجتہن زنان بیہ اللہ (تعالیٰ)
 ستر سہا ذکر کرن والہن مردن تہ اللہ (تعالیٰ)
 ستر سہا ذکر کرن واجتہن زنان، سار
 نے ہنر خاطر تحت شہ ہنر سامانہ تہ بوڈ
 انعام تیار کر تہ تھوومت۔ (۳۳ - ۳۶)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
 وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
 وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
 كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا

الحزاب: ۳۶

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَىٰ رَأًوًا مِّثْلَهَا، وَمَنْ
 عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ قَدَّوْلِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

یس ناکا پر عمل کر تہ سبیل تھی مطابق جزا تہ
 یس اکھا ایمانہ مطابق عمل کر، اڈ مرد اسی
 تن یا زنان، شرط چھ شہ گتھ اپمانس اندر
 پور یور اٹھن۔ سہ تہ تھو ستر ہم پیالہ

مردن تو زنان ہند کی ہوی حقوق

لو کہ سپن جنس مشر و اخل تو تمین سپی
تمہ اندر حساب رو ستی انعام دیو -
(۴۰-۴۱)

يُرَدُّونَ فِيهَا بِخَيْرِ حِسَابٍ ۝

السُّورَةُ: ٤١

بیہ یمن زنان طلاق میلہ رتم
کترهن ترین حیفین (یعنی تریبہ لہ حیفین
بیس) تمام پانہ پانس روکا و تمہ محفادہ
تہ اگر یمن اللہ (تعالا) ہس پلہ تہ آخر تہ
کس دہ ہس پلہ پڑھ پڑھ پھیہ تہ (تمن روزن
پے) نہ یہ کینترہا تہندین شری بانن اندر
اللہ (تعالا) ہن یاد کر تمہ تقوومت پلہ تہند
خاطر تہ ترہا یہ تھاون چھند جاہز تہ اگر
تہندہر تہاوند پانہ وانی اصلاح کرنک ارادہ
کرن۔ تیلہ چھ رتم اتھ (مڈس) اندر
(اندر) تمن (پنہرہ خانداری مشر) واپس
رنگو جاہر حقدار تہ بیقہ پامھی یمن (زنانن)
پلہ کیہنہ ذمہ و اریہ پھیہ، (تھی ہوی)
چھ تمن تہ دوستوڑ موہیب (کیہنہ حقوق)
حاصل۔ آوونی، گوو مردن چھ یمن پلہ
اکر قسبح برتری حاصل تہ اللہ (تعالا)
چھ غالب (تہ) حکمتہ دول۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَ لَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

تیبہ طلاق (تیبہ مشر رجوع ہیکر
سپد تھ) چھ دہ یہ لہ (سپد تھ ہکان)
پتہ آسہ (یا تہ) حساب رنگس مشر

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۚ فَمَا سَكَتَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَشْرِيحٍ يَلْحَسَانًا ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْنَكُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا يُقِيْمُكُمْ حُدُوْدَ اللّٰهِ اِنَّ حِفْظَكُمْ
 اَلَا يُقِيْمُكُمْ حُدُوْدَ اللّٰهِ. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 افْتَدَتْ بِهِ. اِنَّ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَغْتَرُوهَا. وَاَمِنْ
 وَمَنْ يَتَّخِذْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُوْنَ ۝

روکن یا جان سوا لاکہ سالن رو خصت کرن
 تہ تمہند خاطر چھینہ تمیک (یعنی تم مالک)
 بیس تو ہیر تم بر ونٹہ دیتت چھو کائہ حصہ
 تہ (والپس) زمین جائزہ - مارواہ امیر (صورتہ)
 کرن زمین (دہ لونی) آسہ اندیشہ کر رتم
 یکن نہ اللہ (تعالا) سندہ (مقرر کرنہ آہو)
 حد قائم تھو تھ لہذا اگر تہ ہیر اندیشہ آسہ کر رتم
 (دہ لوس) ہسکن نہ اللہ (تعالا) سندہ (مقرر
 کرتہ آہو) حد قائم تھو تھہ تیلیسہ زمانہ) کینز تھہ ہیر
 رنگر و ہیر اتھ طریقس منز چھینہ یکن (دہ لونی
 منز کائہ) کائہ گوناہ - یم چھ اللہ (تعالا)
 سندہ (مقرر کرنہ آہو) حد اوکو مہ سپرو
 تو ہیر یو نمبر تہ یم لاکھ اللہ (تعالا) سندہ لو
 گندہ مہ تہو) حد و نمبر نیرن - تہ (زانی
 تو تہ) تہ لاکھ چھ (اصل) ظلم

(۲۳-۲۲۹-۲)

۱۶ - سوڈیا، بیاضچ منہا ہی

سوڈکس سلسلس مشزیس لفظ قرآن شریفس اندر ورتا وینہ یوان چھہ سہ
 چھہ "ربا" (ربوا) بیسیک تہیجہ لفظ "نفع" ہس سہی رلا تہ پھنہ - بیہ
 پانھو زن عام طور زانہ چھہ یوان "ربا" چھہ منع، تہ کیا تہ امیک مزاج
 چھہ دولت اُکس لہ کھڑ داڑ کین لوکن ہندین اتھن مشر و اتنا وئی - تہ اُکس
 انسانہ سندین ہم ذاتن ہندہ فایدک عمل محدود کرن - قرضن ہندس معاملس
 مشر بیہ "سوڈ" چھہ وناک بیہ کس اثرس تل قرض دار آساں چھہ، چھہ دوہیجہ
 سہی اہر سہ پین فایدہ تہ نفع بناوان -

بیم لکھ سوڈ کھوان چھہ تم چھہ (بلکل) نفع
 پانھو کھڑا گزھان بیہ پانھو سہ شخص کھڑا چھہ
 گزھان بیسیس پیہ شیطا تہ سند (یعنی مزہ
 کہ مرضک) سخت حملہ آسہ - یہ حالت) چھہ او
 کو تہ تم چھہ وناک (روزان) نہ (ہیون تہ)
 کین (تہ ہے) چھہ بلکل سوڈ ک (ہے) پانھو
 حالیکہ اللہ (تعالا) ہن چھہ (ہیون تہ) کین
 جائز قرار دیت تہ سوڈ چھن حرام کوڑمت
 لہذا (تھو یاد) بیسیس (شخص) نش تہندس
 رہہ ہر سہی طرفہ کا تہ نصیحت (ہس کتھ)
 پیہ تہ سہ پیہ (تہ بوزتھ خلاف ورزی لہتہ)
 باز ادیس (لین دین) تھو بروٹھ کوڑمت

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ وَلَا
 كَمَا يَتَغَيَّرُ الذِّبْيُ يَتَغَيَّبُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَتِينِ ، ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَالْحَلَّ لِلَّهِ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ

خِلْدُونَ ○

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

چھ تمیک نفع چھ تمو سندنے تہ تہند
معاملہ چھ اللہ (تعالا) ہس سوالہ تہ بیم (لوکھ)
پتہ (بیم سوسے کام) کرن تہ تم چھ (فوزور)
ناہ (وزن) واول - تم روزن تنقہ مشر پیچھ -

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ . وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

اللہ (تعالا) کر سوس تابلود - تہ صدقہ
ہر راوتہ اللہ (تعالا) چھنہ سارک ہنے
بڑہن کافرن (تہ) بڑہن گہ تہہ گارن
پسند کران -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

بیم لوکھ ایمان اتان چھ تہ نیک تہ
مساب حال کامہ کران چھ تہ نماز چھ قائم
تفوان تہ زکات چھ دو ان تمن ہند با پتھ
چھ تہندس رولس نش پڑی پاٹھ تمن ہند
بدلہ (رڑھرتھ) تمن نہ (تہ) چھ کنہ
قیسک خوف تہ نہ سپن تم تلین -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اے ایماندارو! اللہ (تعالا) سندن
تقویٰ کرو اختیار تہ اگر توہی مؤمن چھو تہ
سود (کہ حساب) مشر یہ کیشرھا باقی اسو
تہ تہ صنو تہ روتھ -

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنَّا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَدَسْوِئَةٍ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ دُؤُسٌ

تہ اگر تہہ تہ کور و تہ اللہ (تعالا)
تہ تہندس رسولہ سندن طرفہ (برپا پدن
والہ) جنگ تھو یقین تہ اگر توہی سود
نشہ توہی کرود تہ (کا نہہ زینتھ کاٹ چھنہ
بکیانہ) تہند خالص مال چھ تہند با پتھ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

دو سوال کرن جائز (اتھ صورتس مشر) نہ
کرو توہر (کانشہ پیٹھ) ظلم نہ نہ سپد
توہر پیٹھ ظلم۔

وَلَا كَانَ دُؤُسْرَةٌ فَنظَرَ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ○

تہ اگر (کانشہ) قرضدار تنگ حال گڑھتھ

وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

پیہ تہ اوسوگی (حاصل سپدس) تمام
آسو و (دس) سہ ہلت دنی۔ اگر توہر
سوجھ بوجھ تھاوان چھو تیلہ زانو نہ
تہند (اُس شخص اصل رقم تہ) صدقہ
دکنہ (دین چھ سارک دے کھوتہ رت
(کار)۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

بیہ کھوتہ تہ دہس پیہ دہہ توہر
اللہ (تعالا) ہس کن واپس تہہ پیہ۔ پتہ
پیہ پر تہہ کانشہ شخصس یہ تمہ کو مت اسہ
پوہر (پوہر) دینہ۔ تہہ تمن پیٹھ سپدس
(کانشہ) ظلم۔ (۲-۲۶۶-۲۸۲)

البقرة: ۲۶۶-۲۸۲

۱۷ - پیشگوئیں

داریا ہ گھ ڈنگو نازل سپرڈ مٹی قرآنکی سوہ چھ وار یا ہن واقعہ ہن ہندو والہ
 دوان - یک گواہی چھ دوان قرآنہ کین بنیادی او صولن تہ ہدایتن ہندس حمایتس
 مثر - کینتہ حصہ اہکی چھ ترتیب دوان تمہ پیشگوئیں ہین ہند لوہ سپدنگ
 تصدیق صدی یو پیٹھ کر نہ چھ آمت - اکثر چھ پڑ سپدنگا لو غوی معنہ تھا وان - کینتہ
 وقتہ چھ ہین استعرا آتی پنجہ آسان یا آسن دلونے سوڑتر ہینتہ کوزن
 بروٹھے وضاحتہ کر نہ آیر، امہ کتاب ہند ناویے چھ اکھ بڑ پیشگوئی ہینہ کر
 پڑ سپدنگ تصدیق زمانہ پتھ زمانہ کر نہ آو - سار وے کھوتہ گھ ڈرینگ الہام
 چھ غلو مہ کر دور کر واتیج سادی، کھلہ مڈلہ قلمہ کر استعمالہ کر ڈرنگ پکران
 (۶۶۴:۹۶)

تمو چھ زہ سمندر پتھ پاٹھو کپنا در مٹو نہ تم
 رن اکہ وقتہ -

(سردس) چھ ہین مثر لگ اکھ پرد ہینہ
 کوز تم اکھ اکیس مثر داغل ہینن نہ سپد پتھ
 (۲۱۶۲:۵۵)

اے جنوتہ انسان ہنز و ٹولہو! اگر توہی
 طاقت بھوتھ او ان نہ آسا نو تہ نہ ہینتہ ہند لو
 بھوتھ کتی تہ پتھ تر لو - اد نہ پتھ ٹاوو! توہی
 ہیکو نہ دل سپہ درائی ہرگز نہ پتھ -
 اد سہ ڈو تو توہی دلونے ہینتس

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْصُرْنَ ۝

التحفين: ۲۰۰-۲۱

يَمْشِي الْجِنُّ وَالْانْسُ لِانِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ
 تَنْفُذُوا مِنْ اَنْفُكُمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفُذُوْا
 لَآ تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

فِيْآيَةِ الْاٰدِ كَمَا تَكُوْنُ ۝

رہ بر سہتر و نعترو اندر کمر کمیگ کردا کار
 تہ ہر پیٹھ پیسہ اگھ تار رہتہ دارتھ دین
 بیہ ترام تر (پیسہ دارتھ دین) اوکڑو میگو
 نہ تو ہر دھ لڑے ہرگز غالب سپد تھ ۔
 (۳۶۷۳۲۰-۵۵)

بیبلہ آسمان پھل ۔
 تہ پنس رہ بر سہند (کلام بوزن) با پتھ
 روز کن دارتھ تہ بی چھ (اتھ پیٹھ) فرض
 بیہ بیبلہ زمین و ہرا دین بیہ ۔
 بیہ یہ کیتھ ہا اتھ اندر چھ تہ تر ہنہ نمبر
 چھکتھ تہ تر ہر گز تھ ۔

تہ پنس رہ بر سہند (کلام بوزن) با پتھ
 دار کن تہ بی چھ (اتھ پیٹھ) فرض
 (۶۱۲-۸۳)

بیہ بیبلہ دین رہن ہر سہند کم دار و ہر تہ
 بیبلہ ترا دین - (۵-۸۱)

بیہ بیبلہ (بیون بون) لاکھ جمع بین کرنہ ۔
 (۸-۸۱)

بیہ بیبلہ کتاب ہر سہرا دین بین ۔
 بیہ بیبلہ آسمان سہرا دین بین ۔

بیبلہ زمین پور پاتھ ہرا دین بیہ ۔
 تہ زمین تر ہنہ بین گہ ہر نمبر کتھ (چھکتھ)

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ
 فَلَا تَتَّصِرْنَ مِنْهُ ۖ

الرحمن: ۳۴-۳۶

وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ
 وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ
 وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ

الانشقاق: ۲-۶

وَإِذْ نَتَّ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ

التكوير: ۵

وَإِذَا الْعِشَاءُ عُرِطَّتْ ۖ

التكوير: ۸

وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ ۖ

التكوير: ۱۱-۱۲

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ ۖ
 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۖ

وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ
 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۖ

در آیه انسان و نبی را آنکه کیا چه سپردمت -
 امر دهم که رسو پند (سارچه پوشید)
 خیر بیا -

اگر کسی ز تهنندی رده بن چه امر (زمین)
 که حقه وحی کُرِهت حق او مثر -

امر دهم سپدن لاکه مختلف طوین بندس
 صورتش مترجم بیته زن پنه پن پنه پن کز لوقن
 بند تقی بن -

پتیر ییو اکیس درس برابر دتر (نکی کر مثر)
 آسه س وچه تہ (یعنی تمیک مثر) -

تہ ییو اکیس درس برابر (تہ) بدی آسه کر مثر
 س وچه تہ (یعنی تمیک نیج) - (۹۹-۹۶۲)

بیه چھو تہ ہر تم بان متلق پر زھان تو ہر
 و لو تہن ز میون رعب زھنہ مولہ کڈتہ تہن
 چھکھ -

تہن تراو اکیس تھس سترس ما دانہ
 کس صورتس مثر -

زہ تہ وچھو تو ہر تھ متر کاتہ ہجر تہ
 نہ کاتہ تھزر - (۲۰-۱۰۶ تا ۱۰۸)

بیه ییو تہنر تباہی ہنر پیشگوئی پور گتھ
 تہ اسی کولون زمینہ اندر تہنر باچتہ اکھ کیو بیس
 تہن تر بی دیر - امر کو تر لوکھ اسی نہ سانہ
 نشان پچھ پڑھ تھوان - (۲۴-۸۳)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

يَا أَيُّهَا رَبَّنَا آوَلَىٰ لَهَا

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أشتَاكًا رَلِيكًا
 أَعْمَالَهُمْ

فَمَنْ يَحْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ يَحْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

الزلزال: ۳-۹

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
 نَسْفًا

نَيْدًا هَاكَا عَا صَفَا

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

طہ: ۱۰۶-۱۰۸

وَلَا ذَا قَعٍ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ
 دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُعَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
 حَاكِنًا بَأْيُنِنَا لَّا يُوَفُّونَ

الشمس: ۸۳

فَاذْأَبْرَقَ الْبَصْرُ

وَحَسَفَ الْقَمَرُ

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

القيمة: ۸-۱۰

تی زریبہ نظر در لکن -

تہ ترؤتہ لکیر گہن -

تہ زون تہ اختابہ دہ لوسے بین دگر ہنہتہ
رکس حالتس مثر (جمع کرنہ - ۷۵ - ۱۰۸)

۱۸۔ قودرتس ستر تعلق تھون وار مساہد

اکھ نمائندہ قودرتس قرآن شریف کچھ یر زہ حالانکہ یر چھ ترہ واہ شتھ
وری پروں مگر یر چھنہ قودرتس کن کا بہ ترہ کتھ منسوب کران یوہ سن تانہ
تحقیقہ کنو غلط ثابت آسہ ہے سپر منتر۔ واریاہ حصہ چھ تانہ سائسی معلقات
ہندی حوالہ پیش کران۔ بیہتر زن۔ بیہتر نقطہ چھ یم بہن واقعہ ہن کن اشارہ
چھ کران یم ونہ تحقیق طلب چھ۔ قرآن شریفس مشر موجود قودرتس کن واریاہن
لا تعداد حوالہ ہندی کیہ البیہا و شکلا ونہ خاطر چھ صرف کیہ حصہ ترارہ آہتر۔

بیہ آسمان تہ ز منچ پادیش بیہ یر کینترہ امین دولتی
منز باگ تم کو تر و دارن ہند رنگہ و ہر ویت
چھ (تر) چھ تہند لو نشانو اندر تہ بیہ
سہ بیترہ کین سارہ نے سو نمبر پرخ آسہ تس
قودرت حاصل۔ (۲۲-۳۰)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سَاعَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ فَصِيحٌ ۝۱۸۰
قُدَيْرٌ

الشوری : ۳۰

بیہ چھ سے بیہ توہی اگر ز ورتس پا د
کری متو چھو۔ امر پترہ کرن (تہند با پتھ)
اکھ عارضی روزن جاعے تہ ز پتھیس مدرس کتر
روزن جاعے مقرر۔ اسہ چھ سمجھن والہن
لوکن ہند با پتھ نشاناکھ واش کتھ بیان

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

الانعام : ۹۹

کڑی متری (۴-۹۹)

اے لوگو! پس جس رہ بر سندن تقویٰ کرد
 اختیار یمیر توہی (بس) اکہ نہ و اندر پاؤ
 کڑی و۔ تہ تمہ (کی جنسہ) رشتہ (ہے)
 کو رن سندن جوہر پاؤ۔ تہ پستہ میو دہ لو رشتہ
 واریہ مرد تہ نہ نانہ (دُنیا ہس مشر پاؤ رشتہ)
 پھ لاون۔ تہ اللہ (تعالا) سندن تقویٰ کرد
 (امر کتہ تہ) اختیار نہ امر ڈری بہ چھو توہی
 پانہ وانی سوال کران تہ خصوصن استثنوی
 (ہندین معالین) مشر (ہیو تقویٰ ہس کام)
 اللہ (تعالا) چھ توہ ہس پیٹھ پڑی پاٹھو نگران۔
 (۲-۲)

سے چھ میس شری بانن مشر تیرھ شری بان
 چھ تیرھ شری بان چھو توہہ دوان۔ تس وراہی
 چھتہ کا نہہ بندگی کر تس لایق۔ سہ چھ غلبہ
 دول (تہ) حکمتہ وول۔ (۳-۷)

(اے بوزن والہوا) کیا توہہ و چھنا نہ اللہ
 (تعالا) ہن چھ آسان تہ زمین حقہ تہ حکمتہ
 سان پاؤ کڑی متری۔ اگر سہ تیرھ توہہ کڑی
 ہلاک تہ (تہنہز جاہ پٹھ) انہ کینہہ بدل نو
 خلق۔ (۱۴-۲۰)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا قَرِيبًا ۝

النساء: ۲۰

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ،
 لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ال عمران: ۷۰

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِالْحَقِّ، إِنَّ يَسْأَلُكُمْ فِيهَا لَمَا تَخْلُقُونَ
 جَدِيدًا ۝

ابراهيم: ۲۰۰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ
فَأَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِئُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ
شَيْئًا وَتَعْرَىٰ الْآرَضُ حَامِدَةً قِيَادًا
انزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَغَسَّاتُهَا وَرَدَّتْ

اے لوگو! اگر توہی دو بار تلوہ میں منطلق
شکس مشر چھو تو (یاد تھو) اسے اس
و توہی گوہ ڈ میٹر نشہ پاؤ کر ڈی
پتہ نطفہ نشہ پتہ ترقی دتھ کہ ترشہ حالت
نشہ یہ سہ لڑتھ گڑھنخ غامیت تھون اس
پتہ ترشہ حالت نشہ ز سہ اس اگس ماڑ پھس
ہش۔ کیشرس کاس تام تہ رور سہ کہ پور پور
ماڑ پھلج شکل تہ کیشرس کاس تام رور اگس
اڑیکس ماڑ پھلج شکل میتھ زن اسو تہ ہہ
پتہ (تحقیقت حال) ظاہر کرد سہ بس چیز
اسو تہ ہان چھن شری بان مشر چھن اگس
مدتس تام ٹھہر اوتھ تھون۔ پتہ چھو تو ہہ
اسو تہ ستر شکل مشر (نمبر) کڈان۔
(پتہ چھو بڑ راوان گڑھان) بیٹیک نتیجہ
چھہ یہ آسان تہ توہی چھو پتہ منبہ طی
(ہنر عمر) تام و اتان تہ توہی مشر پتہ
کیٹہ تھو آسان یم پتہ پور پور عمر اوتھ
مران چھہ تہ کیٹہ چھہ توہی مشر تھو آسان
یک پتہ حد گڑھتھ بچہ چہ عمر تام و اتان
چھہ میتھ زن واریاہ کیٹہ علم حاصل کر تہ پتہ
علم نشہ بزے زھری سپن بس چھکھ تہ
ز سپن وچھان ز سہ چھہ (گتہ گتہ) پتہ
سورے طاقت راو ر اوتھ تھان۔ پتہ یلہ

اسی اتمہ پیٹھ آب تازل چھ کران تو سوع پھیسی
 جوشس مشر یوان تو بڑ نہ چھ لگان تو پرتھ
 کتہ سکو تولی صورت فصل چھید وہ پداوڑی
 ہولان - (۲۲-۶)

وَ اَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْبَةٍ بِمِثْقَالٍ

الحج: ۶۰

یہ چھکھ تو بال ہتھ مولس مشر دھجان زیم
 چھ پنہ جاہ پیٹھ پھر تھ حالاکہ تم چھ واوڑک پاٹھ
 لکان روزان - یہ چھ اللہ (تعالیٰ) سبز کارگیری
 پیٹھ پر تھ کاٹھہ چیز چھ مضبوط ہونٹ سے پیٹھ
 تھند لو اعمالوش توب خبردار - (۲۷-۸۹)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَ هِيَ
 تَمْرٌ مَرًّا السَّحَابُ سُمْئَةٌ الْمَاءُ الَّذِي آتَقَنَ
 حُلَّ شَيْءٍ وَاِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

النمل: ۸۹

یہ چھ تم کو گری ، پھر تو خر (تہ) تو ہنر سوار
 باپتھ تو (تہ) زینتہ (تہ) شایہ) باپتھ (پادا کر گری)
 بیہ کر (آئینہ تہ) سہ (تھند خاطر سوار ہند مزید
 سامانہ) پاد ، تہ سینہ تو ہوس (تہ) زانان چھو۔
 (۱۴-۹)

وَالْحَيْلُ وَالْغَالِ وَالْحَويْلُ لَتَرْكَبُوها وَرِزْنَةً
 وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

النحل: ۹۰

سہا بر کتر دول چھ خدا پیٹھ سہندس
 قبض مشر باد شامت چھ تہ سہ چھ پر ہتھ
 اکھ اپرا د پور کرنس پیٹھ تھ درتھ تھون -
 تم کو چھ موت تو ز ندگ امہ مہ کہ پا د
 کری تہ ز سہ آز ماو و تھ ہر تھ ہر ہر مشر
 کس چھ جاو رتھ عمل کرن دول - تہ سہ
 چھ علیہ دول (تہ) سہا بختہ دول -

تَبَارَكَ الَّذِي يَخْلُقُ الْمَلِكُ وَ هُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَسْئَلُوْكُمْ اَيْكُمْ
 اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُوْرُ

سے پھر نیکی ستھ آسمان طبقہ پتھہ طبقہ
 بناوی تتر چھہ - (تہ) توہی چھونہ رحمان
 (خدایہ) ستر پا داشتہ مشر کانہہ رخنہ
 وچھان - بیہ وچھو توہی پنڑی اچھہ (اوکن
 یوکن) پھری تاوتھہ رتی یا تھہ - کیا توہی
 چھا (خدایہ سیندس مخلوقس مشر گنہ
 جایہ تہ) کانہہ رخنہ نظر گترھان -

(۶۷-۶۸ تا ۶۷)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ
 فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُوتٍ ۗ فَإِذْ جُمِعَ الْبَصُرَاتُ
 هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝

المک : ۳-۴

۱۹۔ قرآن شریف اندر پھیاوتہ امتی کیتہ دعا

دعا چھ خدایس تہ خدائی شخصس درمیان اکھ مضبوط رشتہ۔ خدایہ سہتر مہربانی چھ گمہ ڈ اکس شخصس خدایس کن لمان۔ اکھ شخصس چھ احسان مندک تہ اخلاصہ سان موافق سپدان تہ خدایہ چھ تس نزدیک لیوان۔ دعاہس منز چھ یر رشتہ پن اکھ خاص وصف حاصل کران تہ چھ وہ تہ بودان پنہن مخصوص انجامن۔ تم یم زن روعانی تجربن تہ حاصلن متعلق زان چھ تھاوان — چھ زاتان تہ بیہ تہ بیہ تجربہ کتہ زانان۔ نہ اکھ مکمل مؤمن چھ دعاہو ذریہ تخلیقی قوتہ لبتہ خاطر برہنہ لیوان۔

بیہ (اے رسول!) بیلہ میانی بندہ تہ ہسہ
میہ متعلق پترہنو تہ (توہی و نیوگھ جواب نہ) بہ
چھس (تمن) نزدیک (ہے) بیلہ دعا کرن
وول میہ آلو دیہ تہ بہ چھس تمہند دعا قبول
کران۔ اوکڑ پترہ تم (دعا کرن واک) کرن
میون حکم برسر تہ میہ پیچہ ارن ایمان بیہ
زن تم ہدایت لبین۔ (۲-۱۸۷)

بیہ چھ تمن اندر کیتہ (تہموتہ آسان) ہم
ونان چھ نہ اے ساتھ رہہ بہ اسہ د (بیہ)
دنیاہس (یعنی دنیا چھ زندگی) اندر (تہ کامیابی
تہ آخرتس متر (تہ د) کامیابی بیہ بچاوا اسہ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ

البقرہ: ۱۸۷

وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

البقرة: ۲۰۲-۲۰۳

ناپ کر عذابہ نشتر۔
یہ ہے (تم لوگ) میند خاطر تہنتر
(نیک) کامیہ ہند سبب، (ثوابک) اکھ سٹھا
بوڈ حصہ (مقدرس مثر) چھ تہ اللہ (تعالیٰ)
چھ (سٹھا) جلد حساب چکا وان۔
(۲۰۳-۲۰۲، ۲۰۳)

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا وُسْعًا ۗ لَمَا مَا
كَسَبْتَ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبْتَ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَوَيْتْنَا إِذْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَوْرَاقَنَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفُ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

البقرة: ۲۸۷

اللہ (تعالیٰ) چھنہ سائسہ شخصس پیٹھ سواہ
تمہ کہ (یعنی تمہ ذمہ واریہ ہند) یہ تہندس
طافس اندر آسہ کاتہہ ذمہ واری ترا وان۔
یہ تمکو درہم کڑمتر آسہ سوہ آسہ تمکو سہند
خاطر (قائید واجبی) تہ یہ تمکو (ناکار) کام کڑ
متر آسہ سوہ پیٹھ تمکو پیٹھ (وہ بال بینتھ)
بہ چھ تم پیٹھ وانان نہ) اے سائہ روہ بہ!
اگر اسہ کتہ سائہ مشتھہ گتہہ یا غلطی گتہہ
گتہہ تہ اسہ دہر پو نہ سزا۔ اے سائہ روہ بہ!
بہ مہ ترا ووا اسہ پیٹھ ذمہ واری (تھہ کٹھ)
پیٹھ کٹھ شریہ تمن لوکن پیٹھ ہم اسہ بروٹھ
(گڈرے مٹھ) چھ ترا و مٹر آسٹھ۔ اے
سائہ روہ بہ! پیٹھ پاٹھو مہ تلتا ووا اسہ اتھ
(سہ بور) پیٹھ (تلتک) اسہ مثر طقت
چھنہ۔ بہ کہ اسہ عقو، بہ کہ اسہ مفرت
بہ کہ اسہ پیٹھ رحم (تلیانہ) تہ چھکھ سون
آغہ۔ لہذا کہ اسہ ساقرن ہنتر لوٹہ خلاف
مدد۔ (۲۸۷-۲۸۸)

آسمان تو زمین ہندس پاؤ کر س مشر
تو راتھ تو دہہ بیتھ برو نمٹ پیش مشر چھ عقلہ
والین ہند خا طر پزری پاٹھو کبوت ریشا نہ (موجود)
(تم عقلہ والی) ایم وہ دنر تو بہتہ تو
لر روزتھ اللہ (تعالا) ہس یا دکران (روزان)
چھ۔ بیہ چھ آسمان تو زمین ہندر پاؤ ایشہ
متلق سو کچس تو سمجھس کام ہوان (بیہ چھ

ونان تر) اے سانہ روہ بر! تریہ کو رتھ
نہ بیہ (عالم) بیہ فایدہ پاؤ۔ تر چھکھ (پڑھ
بے مقصد کام کر نہ رتھ) پاک۔ لہذا بچاؤ
تر اسہ نار کہ عذاب رتھ (بیہ بچاؤن سانی
زندگی بے مقصد بتہ رتھ)

اے سانہ روہ بر! بیس تر تارس مشر
تراؤ ہن سہ کو رتھن تریہ پزری پاٹھو ڈھیل
تو ظلمن ہند اسہ نہ کاہنہ (تر) مددگار۔
اے سانہ روہ بر! اسہ بوڑ پزری پاٹھو
رتھس تاؤ دینہ والی سند کو بیس اپسان
دوینہ) کہ خا طر ناد دوان چھ (تو ونان
چھ) تر سپتس روہس پیٹھ اڑو اپسان
لہذا اڈن اسہ اپسان اڈکون اے سانہ روہ بر!
تر کر سانی تو صور معاف تو سانہ بدیہ
نہ اسہ رتھ و تھراوتھ تو اسہ د وقت نیکن
سوتو (رلاوتھ)۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ،
وَمَا يَلْظِمِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ۝

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلدِّيمَانِ
أَنَّ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا غِمِّزْنَا
دُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ
الْأَنْصَارِ ۝

اے ساتھ رہو! اسے دیتے (کثیر تھا)
 بیسیک تریہ پینین رسولن (ہنتر زبانی)
 پیٹھ اسے سوتو وعدہ کوڑ مت چھتہ تہ قیامت
 دہہ کر دی نہ اسے ذیل۔ تہ چھک
 نہ زاہ پینس وعدس خلاف کران۔

اد کیا ہ! تہندہ رہ بن بوڑ تہندہ (دعا
 یہ وناں) تہ بہ کر تہ توہہ اندر کانسہ
 عمل کرن والی ستر عمل ضالغ اد سرد اسے یا
 زمان۔ توہی چھواکھ اُکس سوتو (نقلق
 تھون والی) پس کیوہ ہجرت کر تہ تم آسے
 شہند بو گرو اندر کڈ تہ تہ میانہ وتہ منتر
 آکھ تکلیف دینو۔ تہ تم کوڑ جنگ تہ مار تہ
 آسے۔ بر مشاوتہ ہنتر بڈی یہ (یعنی تم ہنداش)
 تمس (ہندہ جسے) نشہ پڑی پاٹھو۔ تہ یہ
 کر کہ تم بے شک تھین باغن منتر داخصل
 بین تلمہ کستہ منہر پکان آسن۔ اللہ (تعالیٰ)
 سندہ طرفہ میلہ تمس (یہ انعام) بدلہ کنہ۔
 تہ اللہ (تعالیٰ) چھ سہ یس بش بہترین جسرا
 چھ۔ (۳ - ۱۹۱ تا ۱۹۶)

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَزَلٌ رُّسُلِكَ وَلَا
 تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
 الْمِيعَادَ ○

قَالَ سَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ
 عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ دَکْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن
 بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَآجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن
 دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا
 لَا كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَآتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ
 جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الثَّوَابِ ○

ال عمران : ۱۹۱-۱۹۶

يَسْتَلِ اللهُ (تعالا) سُنْدَ مَدَدَتِهِ يَوْمَ يَوْمٍ

غلبہ پیسہ -

تو توہم و مہیو امر کہتے ہندی آثار تر اللہ
(تعالا) سندس دینس متر سپدن لوگھ توہم و مہیو داہل

امر وقتہ سپدن لو توہم سپنس رہ بہ بندن
تقریبین ستو (ستو) تھو ستو پانچوگی
بیان کرنس متر تہ آوری تہ (مسلمان بندس
تر بیتس اندر یکہ ترھو تر آسن روڈو متو تھن
ہند موکھ) ٹنگو زپوتس (خدایس) پر د
کرنگ دغا - سہ چھ بے شک سپنس بندس
گن رحمتہ سان پھیری پھیری پیسہ وول -
(۱۱۰-۱۱۱)

(بہ چیس پران) اللہ (تعالا) سُنْدَ نَاوِہ تھیس
ہر رؤس کرم کرن وول (تہ) وِزِ وِزِ رحم
کرن وول چھ -

بہ چیس پیش کران (محمد سُنْدَ) زمانہ شہادتہ کہتہ
در بے شک چھ دنسین ہند مخالف
انسان دہمیشہ) گاش متر (روزان)

مگر تم لوگھ یونسین پیٹھ) ایمان اون
تہ د پتہ کرکھ اعمال (موقر کر) متا سب
علی تہ پز کس اوہولس پیٹھ تا ایم روزنگ
کوڑکھ اکیسویس تلفین - بیہ دور پیش
بیہ والین مشکلاتن پیٹھ صبر سان گام

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا ۝

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ
تَوَّابًا ۝

النصر: ۱-۴

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

وَالْعَصْرِ ۝

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا
بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

العصر: ۱-۴

منہج) روڈی اکھ میس ہدایت کران۔ (یتیمو
لو کہ چھتہ زینے گاٹس مشر پہوان) (۱۰۳-۱۰۴) (۱۰۴)

(بہ چھس پران) اللہ (تعالا) سئد ناو پتھ
یس حد روں کرم کرن دول (تہ) ویر ویر
رہم کرن دول چھ۔

داسی چھ پر پتھ زمانہ کس مسمانس حکم دوان
تہ (تہ روز) دویمین لوکن کن) ونان نہ
دامل) کتھ چھینہ بیر نہ اللہ (تعالا) چھ پستس
داتس مشر کن۔

اللہ (تعالا) چھ سہ (ہستی) یتیمو سندی
ساری موہ حاج چھ (تہ سہ چھتہ کائسہ ہند
موہ حاج)

نہ چھتس کائتہ زامت نہ چھ سہ (کائسہ)
زامت۔

بیر چھتہ کائتہ تہ (تہ سندن صفات مشر) تسد
شریک کار (۱۱۲-۱۱۳) (۱۱۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

الخلاص : ۱-۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقَلِ ۝

(بہ چھس پران) اللہ (تعالا) سئد ناو پتھ
یس حد روں کرم کرن دول (تہ) ویر ویر
رہم کرن دول چھ۔

داسی چھ ہر زمانہ کس مسمانس ونان نہ
تہ گتھ (دویمین لوکن) ونان نہ بہ چھس
مخلوق تہ کس روہس (تسد) پناہ متکان۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

تو سب سے بڑے شر میں سے (ظاہری
تو باطنی) ناکارہ کی نشیہ (بچنے سے بچو)

وَمِنْ شَرِّ عَاقِبِ إِذَا وَقَبَ ۝

بہ سے اترے گاٹ کرن والے پر ہتھ شرارتی نشیہ
(بچنے سے بچو) یہ سب سے اترے گاٹ کرن چھو۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

بہ سے جن سارے نے انسان ہند شرارتی نشیہ
(بچنے سے بچو) تریم (پاؤں و آئی تعلق آسنو
کس) گندس مشر (تعلق ٹرٹنہ کہ نیستہ)
پھو کہ دروان چھو۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

بہ سے ہتھ حسد کرن والے سب سے شرارتی
نشیہ (تر) یہ سب سے حسد کرن سے بچو ہوں
گندان چھو۔ (۱۱۳ - ۱۱۴)

الفاتحہ: ۶-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

در بے چھس پران) اللہ (تعالیٰ) سب سے ناوہتھ
یہ سب سے روس کرم کرن (تر) در و تر
رحم کرن وول چھو
(اُس سے چھو ہر زمانہ کس مسلمانس ومان تر)
گرتھ (دو تین لوکن) ومان تر بے چھس
سارے نے انسان ہندس روہس (تسند)
پناہ منگان۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

(سے روہ) یہ سارے نے انسان ہند
بادشاہ (تر) چھو

مَلِكِ النَّاسِ ۝

بہ سے چھو سارے نے انسان ہند معبود (تر)

اِلٰهِ النَّاسِ ۝

(بے چھس تو سب سے پناہ منگان) پر ہتھ

قرآن شریف کی تفسیر سہل یاد کرنے والا لائق تہ زہود سورہ

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

الناس: ۱-۷

وسواس تراون واول سیند شرارت تو اینشہ
 یس (پر پتھ قسمہ وسواس تراوتھ) پتھ پتھ تزلان
 (بیہ) یس انسان ہندین دین اندر شک
 پتھ پاد کران ۔
 ادوس (فتنہ تلن وول) پوشید روزن
 واجنیو ہستی تیو اندر آسکتن یا اد عام اتسالو
 اندر آسکتن - (۱۱۴-۱۱۵)